

بِقَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
طَهْرِي
يَا لَكُونُ سَلَامًا

سَلَامٌ

يَا شَفِيعَ الْوَرَى سَلَامٌ عَلَيْكَ

يَا أَبِي سَلَامٍ عَلَيْكَ
يَا رَسُولَ سَلَامٍ عَلَيْكَ

سَلَامٌ أَسْرَ بِرَكَةِ جِسْمِهِ كَنْزِ رَاحَةِ عِبَادَتِهِ فِي
سَلَامٌ أَسْرَ بِرِسْخَنِ جِسْمِهِ كَالْحَبَّةِ كِي عَلَامَتِهِ فِي

مرتب

ظَاهِرِ حُسَيْنٍ طَاهِرِ سُلْطَانِي





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

18

”سلام“

حضور پر نور سرورِ انبیاء آنحضرت ﷺ

کی بارگاہِ اقدس میں شعراء کرام کا سلام عاجزانہ

تالیف

طاہر سلطانی

111254

111254

اُردو حمد و نعت کے حوالے سے یادگار
اور منفرد کتابیں شائع کرنے والا ادارہ

ترتیب و اہتمام..... طاہر رفیق حسین

کتاب ہذا کے مجملہ حقوق بحق ادارہ ہذا محفوظ ہیں

کتاب	●	”سلام“
مرتب	●	طاہر سلطانی
اشاعت	●	رمضان المبارک ۱۴۲۸ھ، اکتوبر ۲۰۰۷ء
کمپوزنگ	●	جہان حمد کمپوزنگ سینٹر
کمپوزر	●	عبدالرحمن طاہر، عبداللہ حسان طاہر
طباعت	●	ندیم پرنٹر، کراچی
نگران طباعت	●	حافظ محمد نعمان طاہر
قیمت	●	۲۰۰ روپے
ذیکر ممالک میں	●	۱۵ ڈالر
ناشر	●	جہان حمد پبلی کیشنز

Jahan-e-Hamd Publications

Nausheen Center, 2nd Floor, Room-19,

Urdu Bazar Karachi. Mob: 0300-2831089,

Ph: 2210869, E-mail: tahirsultani@gmail.com



انتساب



”تحفہ سلام“ کو

محسن اہلسنت حضرت حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ
مجاہد اہلسنت علامہ مولانا نسیم احمد صدیقی نوری

اور

کتاب ہذا کو حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور ان کے حقیقی مداح
”مجلس رضا“ صوبہ سندھ کے صدر، ماہنامہ ”ارمغانِ حمد“ کے اعزازی مدیر

خادم اہلسنت جناب لیاقت علی پراچہ

سے منسوب کر رہا ہوں۔

خلوص و عقیدت کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور ہد نور سرورِ انبیاء
آنحضرت ﷺ کے طفیل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے (آمین)

خادم اولیائے کرام

طاہر سلطانی

حُسن ترتیب

﴿حصہ اول﴾

- بے شمار درود و سلام آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس پر طاہر سلطانی ۱۱
بر محمد ﷺ می رسا نم صد سلام شبیر احمد انصاری ۲۱

﴿حصہ دوم﴾

علماء اہلسنت بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں

۲۵	مولانا احمد رضا خاں قادری	۲۳	علامہ سید عشق
۳۰	مولانا امیر مینائی	۲۸	مولانا کفایت علی شہید
۳۲	مولانا اسماعیل میرٹھی	۳۱	مولانا محمد اکبر وارثی
۳۳	علامہ حافظ پبلی بھتی	۳۳	علامہ سیماب اکبر آبادی
۳۷	مفتی عبدالصطفیٰ رضا نووی	۳۵	مولانا حسن رضا خاں
۴۰	مفتی احمد یار خاں بدایونی	۳۹	مولانا ضیا القادری بدایونی
۴۲	مولانا عبدالحامد بدایونی	۴۱	علامہ شاہ عبدالعلیم قادری
۴۴	مولانا خلیل احمد خاکی	۴۳	علامہ اثر زبیری لکھنوی
۴۶	مولانا بیکل اتساہی	۴۵	مولانا اختر حامدی
۴۸	مولانا عاقل اکبر آبادی	۴۷	مولانا غلام فخر الدین سیالوی

۵۰	مولانا محمد انیس عطار قادری	۴۹	علامہ سید ریاض الدین سہروردی
۵۲	مولانا خلیل خان خلیل	۵۱	مولانا جمیل الرحمن قادری
۵۳	مولانا احمد علی چاند پوری	۵۳	مولانا محمود احمد رضوی
۵۷	علامہ نصیر الدین گوٹروی	۵۵	مولانا جامی بدایونی
۵۹	مولانا کلام رضوی	۵۸	علامہ محمد طاہر کریمی عثمانی
۶۱	حافظ لہ ہیانوی	۶۰	حافظ مظہر الدین مظہر

علمائے اہلسنت (دیوبند) حضور پر نور سرورِ انبیاء ﷺ کے حضور

۶۳	مولانا ماہر القادری	۶۳	مفتی محمد شفیع
۶۶	مفتی نسیم احمد فریدی	۶۵	مولانا جمیل احمد تھانوی
۶۸	مولانا امام علی دانش	۶۷	مولانا نسیم احمد نازی
۷۰	علامہ منصور جنوری	۶۹	مولانا کفیل الرحمن نشاط
۷۲	مولانا بلال علی آبادی	۷۱	مولانا اظہار الحق مظہر قاسمی
۷۳	مولانا احمد علی	۷۳	مولانا عطا الرحمن عطا
۷۶	علامہ سلام	۷۵	مولانا عبدالعزیز ظفر جنکپوری
۷۸	صوفی بقا نظامی	۷۷	صوفی بہار لکھنوی
۸۰	صوفی احمد خاں	۷۹	صوفی رہبر چشتی
۸۲	صوفی اجمل قادری	۸۱	صوفی جاوید اقبال

﴿حصہ سوم﴾

ممتاز و معروف شعرائے کرام
رسول کریم محسن انسانیت آنحضرت ﷺ کی بارگاہ میں

۸۴	حفیظ جالندھری	۸۴	حسرت موہانی
۸۶	صبا کبر آبادی	۸۵	حمید صدیقی لکھنوی
۸۸	راغب مراد آبادی	۸۷	منور بدایونی
۹۰	مظفر وارثی	۸۹	حفیظ تائب
۹۳	صبا متھراوی	۹۱	صابر براری
۹۵	حنیف اسعدی	۹۲	امید فاضلی
۹۷	محشر لکھنوی	۹۶	سکندر لکھنوی
۹۹	کلیم عثمانی	۹۸	ادیب رائے پوری
۱۰۱	سرشار صدیقی	۱۰۰	فوق دہلوی
۱۰۳	شوکت الہ آبادی	۱۰۲	عبدالباقی بے دل جبل پوری
۱۰۵	ڈاکٹر خورشید خاور امرہوی	۱۰۳	ستار وارثی
۱۰۷	خاطر غزنوی	۱۰۶	وقار صدیقی اجمیری
۱۰۹	اعظم چشتی	۱۰۸	خالد شفیق
۱۱۱	رعنا کبر آبادی	۱۱۰	حیرت الہ آبادی
۱۱۳	فدا حسین فدا	۱۱۲	مختار اجمیری
۱۱۵	جگن ناتھ آزاد	۱۱۳	شیدابریلیوی
۱۱۷	راجا رشید محمود	۱۱۶	جمیل نقوی

۱۱۹	مسرور کیفی	۱۱۸	مہر دلولوی
۱۲۱	قمر انجم	۱۲۰	اعجاز رحمانی
۱۲۳	مبارک مونگیری	۱۲۲	اقبال عالم
۱۲۵	جمیل نظر	۱۲۴	شیدا جبل پوری
۱۲۷	عس مسلم	۱۲۶	شاہد الوری
۱۲۹	قیوم احسان	۱۲۸	نسیم بستوی
۱۳۱	حنیف اختر ملیح آبادی	۱۳۰	ثاقب انجان
۱۳۳	ڈاکٹر رئیس احمد نعمانی	۱۳۲	خلیق قریشی
۱۳۵	نعیم تقوی	۱۳۴	محمد علی ظہوری
۱۳۷	رشید وارثی	۱۳۶	سعید وارثی
۱۳۹	فہیم روداوی	۱۳۸	فیاض احمد کاوش
۱۴۱	نذیر	۱۴۰	جبران انصاری
۱۴۳	شفیق الدین شارق	۱۴۲	اشرفی
۱۴۵	فخر الدین فخر گیاوی	۱۴۴	شریف امر وہون
۱۴۷	قمریزدانی	۱۴۶	مقبول نقش
۱۴۹	درد کا کوروی	۱۴۸	عبدالحمید بیگ عالم
۱۵۱	واثق ذائقہ	۱۵۰	خمار فاروقی
۱۵۳	مہر وجدانی	۱۵۲	ریاض حسین چوہدری
۱۵۵	سید غلام معین الدین	۱۵۴	مسرور بدایونی
۱۵۷	سید نفیس الحسنی	۱۵۶	اقبال عجمی

۱۵۹	بے چین رجپوری	۱۵۸	یزدانی جالندھری
۱۶۱	احمد سہارنپوری	۱۶۰	حجی اعظمی
۱۶۳	عبدالکریم ٹنڈی	۱۶۲	اکرم رضا
۱۶۵	انور فرخ آبادی	۱۶۳	حکیم نیر واسطی
۱۶۸	خالد محمود نقشبندی	۱۶۷	ڈاکٹر نواز دیوبندی
۱۷۰	تنویر پھول	۱۶۹	رفیع الدین راز
۱۷۲	ذکی قریشی	۱۷۱	الطاف احسانی
۱۷۳	زاہد فخری	۱۷۳	آرٹھ عظیم آبادی
۱۷۶	ڈاکٹر نذیر علوی	۱۷۵	خیال آفاقی
۱۷۸	ادب سیمابی	۱۷۷	شاہ عبدالسلام
۱۸۰	اخگر سردی	۱۷۹	نصرت نوشاہی
۱۸۲	بدر ساگری	۱۸۱	طالب جلال
۱۸۳	رضا امروہوی	۱۸۳	محمد اسماعیل علی خاں تاج
۱۸۶	اختر حیدر آبادی	۱۸۵	قاضی اطہر مبارک پوری
۱۸۸	آفتاب مظفر	۱۸۷	عارف مہجور رضوی
۱۹۰	صہیح رحمانی	۱۸۹	عزیز احسن
۱۹۲	مقبول شارب	۱۹۱	حافظ مستقیم خان مستقیم
۱۹۳	آفتاب کرمی	۱۹۳	منظر عارفی
۱۹۶	انور فیروز پوری	۱۹۵	یامین وارثی
۱۹۸	خان اختر ندیم	۱۹۷	عزیز الدین خاکی

۲۰۰	رفیق مغل	۱۹۹	عبدالوحید تاج
۲۰۲	ڈاکٹر میر محمد اسماعیل	۲۰۱	کوثر بریلوی
۲۰۳	ولی عظیم آبادی	۲۰۳	سید احمد سحر
۲۰۶	خلیل سیما بی	۲۰۵	ناظر حسین چاند پوری
۲۰۸	انجم رحمانی	۲۰۷	رضا عظیم آبادی
۲۱۰	سلیم اللہ فہمی	۲۰۹	عزیز سہروردی
۲۱۲	شاعر علی شاعر	۲۱۱	عبدالحمید قادری
۲۱۳	پروفیسر حبیب الرحمن رومی	۲۱۳	ارشاد علی ارشاد
۲۱۶	احقر الہ آبادی	۲۱۵	نصیر آرزو
۲۱۸	سعید دہلوی	۲۱۷	ڈاکٹر نثار احمد نثار
۲۲۰	حنیف نازش قادری	۲۱۹	اختر شیرازی
۲۲۲	منتظر	۲۲۱	شہاب قاضی پوری
۲۲۳	ریحان کراچی	۲۲۳	عروج بجنوری
۲۲۶	زماں سہرابی	۲۲۵	طہور خان پارس
۲۲۸	حیرت جو پوری	۲۲۷	شکیل مدنی
۲۳۰	بشیر زواری	۲۲۹	نظر لکھنوی
۲۳۲	ناصر الدین صدیقی	۲۳۱	توصیف علوی
۲۳۳	مشتاق حسین قادری	۲۳۳	آسی سلطانی
۲۳۶	امت اللہ تنیم	۲۳۵	نثار علی اجاگر
۲۳۸	احمد بی بی	۲۳۷	وحیدہ نسیم

۲۳۰	رابعہ پنہاں	۲۳۹	نور بدایونی
۲۳۲	نوشاہہ خاتون	۲۴۱	نور جہاں عرب
۲۳۳	ریحانہ تبسم فاضلی	۲۴۳	نجم النساء
۲۳۶	یونس ہویدا	۲۴۵	عرشہ علوی
		۲۴۷	طاہر سلطانی

متفرق اشعار ۲۵۱ تا ۲۵۶


رئیس امر وہوی	صبا کبر آبادی
آغا حشر کاشمیری	علیم ناصری
نسیم سحر	سید سلیم گیلانی
تہنیت النساء بیگم	ساحر شیوی
خوشی محمد ناظر	فنا نظامی کانپوری
سید ذوالفقار حسین نقوی	شاہ حسن عطا
	طاہر سلطانی

وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ سلام

تنویر پھول

قطعہ تاریخ

ماخذ



معزز شعرا، اہرام سے تقدیم و تاخیر کی معذرت

بے شمار درود و سلام آپ ﷺ کی ذات اقدس پر

طاہر سلطانی

درود و سلام کو ہم عبادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ہمراہ خود بھی اس عبادت میں شامل ہے۔ درود و سلام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں اتنا ہی زیادہ کیف و سرور اور سکون قلب حاصل ہوگا۔ درود و سلام پڑھنے والے خوش قسمت کے نامہ اعمال میں دس نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے دس درجات بلند کرے جاتے ہیں۔ اور دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ میری والدہ ماجدہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرتی تھیں۔ مجھے ہمیشہ یہی تلقین فرماتیں کہ درود شریف کا درود ہمیشہ جاری رکھنا سو الحمد للہ و نطفہ درود جاری و ساری ہے۔

قرآن مبین میں اللہ عزوجل کا فرمان عالی شان ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(ترجمہ) ”بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی ﷺ پر

اے ایمان والو! آپ ﷺ پر درود اور سلام بھیجو“

حضور پر نور تاجدار انبیا آنحضرت ﷺ کا فرمان عالی شان ہے۔

جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

جیسے لوہے کو آگ میں ڈالنے سے اس کا میل دور ہو جاتا ہے اسی طرح درود شریف پڑھنے سے گناہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ محبوب کبریٰ رسول آخرت ﷺ

نے ارشاد فرمایا ”جب میں اس دار فانی سے انتقال کر جاؤں تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنا“ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تک یہ درود کیسے پہنچے گا؟۔ آپ نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے گوشت انبیا کا زمین پر حرام کیا ہے وہ کھا نہیں سکتی (تمام انبیاء اپنے اصلی گوشت پوست کے ساتھ صحیح سالم قیامت کے دن تک اسی حالت میں رہیں گے جیسے کہ وفات کے وقت تھے) اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ صلصائیل کو میری قبر پر مقرر کیا جو نوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے اور نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

ترمذی نے اپنی جامع میں اسناد کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔ قیامت کے دن سب لوگوں سے مقدم اور اولیٰ مجھے وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے سنائی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

جس کے سامنے میرا نام آئے اسے درود پڑھنا چاہیے اور جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے خدا تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جسے ابو یعلیٰ موصلی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو درود دوست آپس میں ملیں اور نبی کریم ﷺ پر درود پڑھیں وہ جدا ہوں گے ایسی حالت میں کہ ان کے اگلے پچھلے (صغیرہ) گناہ بخشے گئے ہوں گے۔

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خطبہ کہتے ہوئے سنا آپ فرماتے تھے۔

جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ درود خوانی میں رہتا ہے اب بندہ کو اختیار ہے کہ کم پڑے یا زیادہ۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے ابو الشیخ اصہبانی نے سند کے ساتھ روایت کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک ایسا فرشتہ ہے جسے خدا تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازوں کی قوت شنوائی دے دی ہے جب میرا انتقال ہوگا تب وہ میری قبر پر ٹھہرا رہے گا جو کوئی مجھ پر درود پڑھے گا وہ بتلا دے گا کہ فلاں فلاں نے آپ پر درود پڑا ہے فرمایا اس درود پڑھنے والے پر ایک کے بدلے دس رحمتیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔

طبرانی نے معجم کبیر میں اور رویانی نے مسند میں اپنی اسناد کے ساتھ اسی طرح روایت کیا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے محدث ابن شاہین نے سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے۔

جو مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا،

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے جسے ابراہیم بن رشید بن سلیم نے سند کے

ساتھ روایت کیا کہ رسول کریم ﷺ فرماتے تھے۔

یعنی جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اسے ایک فرشتہ لے کر اوپر چڑھتا ہے اور رخن پاک کے حضور اسے لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میرے مقبول بندے محمد رسول اللہ ﷺ کی قبر پر لے جاؤ تا کہ آپ درود خواں کے لئے دعائے بخشش کریں اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔

(جلاء الافہام از ابن قیم جوزی صفحہ ۵۰ (مترجم) طبع لاہور ۱۹۷۲ء)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے ابو داؤد نے سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہ جو کہ تم بھی کہو (ختم اذان کے بعد) مجھ پر درود پڑھو جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے خدا تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے پھر میرے وسیلہ کا سوال کرو۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے طبرانی نے معجم کبیر میں سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو شخص مجھ پر صبح کو دس بار اور شام کو دس بار درود پڑھتا ہے اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ طبرانی نے دوسری سند کے ساتھ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جمعہ کے دن درود کثرت سے پڑھا کرو کیوں کہ وہ یوم مشہود ہے اور فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں جو بندہ درود پڑھتا ہے خواہ وہ کوئی کہیں ہو اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے عرض کیا گیا کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد؟ فرمایا، ”وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے“

سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو وہ اپنے باپ عمیر بدری سے روایت کرتے

ہیں اس کو عبدالباقی بن قانع نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
 جو شخص سچے دل سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے
 دس درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے“

ترمذی نے اس روایت کو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 روایت کیا ہے۔

عبدالکریم بن عبدالرحمن نے سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔
 کہ ہر ایک دعا اور آسمان میں حجاب ہوتا ہے جب تک نبی کریم ﷺ پر درود نہ پڑھا جائے
 جب درود پڑھا گیا، حجاب اٹھا اور دعا قبول ہوئی جب درود نہ پڑھا تو دعا بھی قبول نہ ہوئی۔
 (جلاء الافہام صفحہ ۵۷ طبع لاہور ۱۹۷۲ء)

معاذ بن اسد نے سند کے ساتھ منبہ بن وہب سے روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت کعب
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے۔ نبی اکرم ﷺ کا ذکر
 ہونے لگا حضرت کعب نے کہا ہر فجر کو ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور قبر کو گھیر لیتے ہیں
 اور اپنے پروں کو قبر انور منبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اور درود پڑھتے رہتے ہیں جب شام
 ہوتی ہے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔

ستر ہزار فرشتے اور اتر آتے ہیں حتیٰ کہ جب زمین (قیامت کو) شق ہوگی تو آں حضرت
 ﷺ ستر ہزار فرشتوں کے اندر برآمد ہوں گے اور وہ حضور ﷺ کے گرد و پیش حاضر ہوں
 گے (جلاء الفہام صفحہ ۵۷/۵۸ طبع لاہور ۱۹۷۲ء) (سنن دارمی صفحہ ۵۷ جلد اول طبع کراچی)
 سلیمان بن حرب نے اپنی سند سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ مسجد
 میں جانے کے وقت صل اللہ و ملائکتہ علی محمد۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا
 چاہیے۔
 (جلاء الافہام صفحہ ۵۹ طبع لاہور ۱۹۷۲ء)

ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کیا سب سے زیادہ بخیل تمہیں بتلاؤں لوگوں نے عرض کیا ہاں، فرمایا: جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ سب سے زیادہ بخیل ہے۔

(جلاء الفہام صفحہ ۴۹)

سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی کہ ایک شخص رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و تنگدستی کی شکایت کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر خواہ اس میں کوئی ہو یا نہ ہو پھر مجھ پر سلام بھیج پھر ایک دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھ اس شخص نے ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر رزق کی ریل پیل کر دی یہاں تک کہ وہ ہمسایوں اور قرابتیوں کو بھی دینے لگا۔

(جلاء الفہام صفحہ ۲۵۶)

ابوموسیٰ مدنی نے سند کے ساتھ حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

کہ جس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے ذکر اور میرے درود کے ساتھ نہیں وہ کلام ہر برکت سے خالی ہے۔ (جلاء الفہام صفحہ ۲۶۲)

حافظ ابن مقدرہ نے سند کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو شخص ہر روز مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ستر

آخرت کی اور تمیں دنیا کی۔ حافظ موسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ (جلاء الفہام)

ابن وہب نے سند کے ساتھ ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پاس صدقہ نہ ہو وہ اپنی دعا میں پڑھے ”اللهم
صلى على محمد عبدك ورسولك وصل على المومنين
والمومنات والمسلمين والمسلمات“ یہی اس کے لئے زکوٰۃ ہے۔

(جلاء الفہام صفحہ ۲۶۱)

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ وہ دعا جس میں اول و آخر درود تامل نہ ہو زمین و آسمان
کے درمیان معلق رہتی ہے۔

سلام کی فضیلت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء، آیت ۸۶ میں ارشاد فرمایا ہے :
(ترجمہ) ”جب کوئی تمہیں دعا دے تو تم بھی اسے بہتر انداز میں دعا دو یا
اسی کے الفاظ دہرا دو۔ بیشک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے“

حدیث ۱ :

صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا ان کا قد ساٹھ ہاتھ کا تھا۔
جب پیدا کیا یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب
دیتے ہیں۔ جو کچھ وہ تحیت کریں وہی تمہاری اور تمہاری ذریت کی تحیت ہے۔ حضرت آدم
علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر السلام علیکم کہا انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ
اللہ، حضور نے فرمایا کہ جواب میں ملائکہ سے ورحمۃ اللہ زیادہ کیا۔ حضور نے فرمایا جو شخص
جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور ساٹھ ہاتھ لہبا ہوگا۔ آدم علیہ السلام
کے بعد لوگوں کو خلقت کم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ اب بہت چھوٹے قد کا انسان ہوتا ہے۔

حدیث ۲ :

صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ حضور نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو۔

حدیث ۳ :

ترمذی و ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی مجلس تک کوئی پہنچے تو سلام کرے۔ پھر اگر وہاں بیٹھنا ہو تو بیٹھ جائے، پھر جب وہاں سے اٹھے سلام کرے کیوں کہ پہلی مرتبہ کا سلام کچھلی مرتبہ کے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ یعنی جیسے وہ سنت ہے یہ بھی سنت ہے۔

حدیث ۴ :

امام احمد و ترمذی و ابوداؤد، ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے۔

حدیث ۵ :

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ اور تم مومن نہیں ہو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اُسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ۔

اس مسئلہ میں علماء حق کا اختلاف ہے کہ سلام کرنا افضل ہے یا جواب دینا، کسی عالم دین نے کہا جواب دینا افضل ہے کیوں کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، بعض علماء کرام نے کہا کہ سلام کرنا افضل ہے کہ اس میں تواضع ہے جواب تو سبھی دے دیتے

ہیں مگر سلام کرنے میں بعض مرتبہ لوگ کسیرشان سمجھتے ہیں۔ (عالمگیری)

قصہ مختصر یہ کہ سلام کرنا سلام کا جواب دینا، سلام لکھنا اور سلام پڑھنا احسن عمل ہیں

نیز یہ کہ باعثِ سعادت و برکت ہے بالخصوص سرورِ انبیاء حضور پر نور ﷺ کی بارگاہِ اقدس

میں انتہائی انکساری و عاجزی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام بھیجنا بہترین عمل ہے۔

خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس عملِ خاص کو حرزِ جاں بنائے ہوئے ہیں۔

سرورِ انبیاء محسنِ انسانیت آنحضرت ﷺ سے محبت کا زبانی دعویٰ کرنا آسان ہے۔ مگر ہر دعویٰ

دلیل مانگتا ہے۔ اور دلیل عمل مانگتی ہے۔ آنحضرت ﷺ سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم

آپ ﷺ پر کثرت سے نہ صرف درود و سلام بھیجیں بلکہ آپ ﷺ کی سیرت پر عمل پیرا بھی

رہیں فضائلِ درود و سلام کے موضوع پر بے شمار کتابیں شائع ہو چکی ہیں مزید یہ سلسلہ جاری

ہے۔ اسی طرح شعرا کرام نے بھی درود و سلام کو اپنی فکر کا محور بنایا اس حوالے سے اردو نعتیہ

ادب میں شعرا کرام کی کاوشیں اور کوششیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔

چنانچہ فقیر کو خیال ہوا کہ شعرا کرام کی ان شہ پاروں کو جمع کیا جائے جن میں انہوں نے

درود و سلام کو موضوع بنا کر طبع آزمائی کی ہے۔

سلام کے موضوع پر ۶۴ صفحات پر مشتمل ایک پاکٹ سائز کتاب ”سلام رضا“ کے

نام سے معروف ادیب و شاعر شہزاد احمد نے انجمن ترقی نعت کراچی کے تحت ۱۹۸۳ء میں

کراچی سے شائع کی۔ سلام رضا میں ۵۰ ممتاز و معروف شعرائے کرام کے منتخب سلام شامل

ہیں۔ انہوں نے ”لاکھوں سلام“ کے نام سے ۳۲ صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ ۱۹۸۵ء میں

شائع کیا۔ اول الذکر کتاب قدیم و جدید شعرا کے وجد آفریں سلاموں پر مشتمل ہے۔ لاکھوں

سلام میں شہزاد احمد نے مجددین ملت امام اہلسنت شاہ احمد رضا خاں قادری برکاتی کے

مشہور زمانہ سلام پر دس شعرائے کرام کی تضامین شامل کی ہیں۔ شہزاد احمد کی اس کتاب کو

اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ ”سلام رضا“ پاکٹ سائز میں شائع ہوئی ہے نیز نثار علیٰ اُجاگر کا مرتب کردہ پاکٹ سائز مجموعہ ”سلام“ (جس میں ۱۲ شعراء کے نعتیہ سلام موجود ہیں) بھی شائع ہو چکا ہے۔

الحمد للہ ہم پہلی مرتبہ ۱۹۸۸ شعراء و شاعرات کا وہ کلام جس میں نبی کریم ﷺ کے حضور سلام عاجزانہ پیش کیا گیا ہے۔ ہم اپنے قارئین کی خدمت میں بصد خلوص و عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ذات بابرکات سے ہمیں امید ہے کہ درود و سلام کے یہ نذرانے بارگاہ رسالت ﷺ میں قبولیت کا درجہ حاصل کریں گے۔

ممتاز و معروف شعراء و شاعرات کے نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ مشہور زمانہ سلاموں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جنہیں حد درجہ پذیرائی حاصل ہوئی۔

راقم شکر گزار ہے اللہ عز و جل کا کہ اس نے رسول آخر سرورِ انبیاء آنحضرت ﷺ کے طفیل کتاب ”سلام“ کی ترتیب و اشاعت کی توفیق بخشی۔ ممنون ہوں شعرائے کرام اور اُن احباب کا جن کی دعاؤں سے کتاب ”سلام“ طباعت کے مراحل طے کرتے ہوئے آپ تک پہنچی۔ غلامانِ رسول اکرم ﷺ سے میری درخواست ہے کہ اس کتاب کو خرید کر اپنی لائبریری کی زینت ضرور بنائیں کیوں کہ ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔

شاعرِ حمد و نعت

طاہر سلطانی

مدیر: ماہنامہ ”ارمغانِ حمد“

مرتب: ”جہانِ حمد“ کتابی سلسلہ

0300-2831089

☆☆☆☆☆

۲۰

☆☆☆☆☆

”سلام“

بر محمد ﷺ می رسا نم صد سلام

فتیر احمد انصاری

- قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ”سلام“ کی قدر و منزلت کے مضامین ملتے ہیں۔
- گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر لیا کرو یہ ایک دعا ہے۔ (النور ۴۱)
- نیک لوگوں کا تحفہ سلام ہوگا۔ (الاحزاب ۴۴)
- جنت میں آپس میں گفتگو سلام سے ہوگی۔ (الاعراف ۴۶)
- پروردگار کی طرف سے اہل جنت کو سلام کہا جائے گا۔ (البین ۵۸)
- فرشتے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ (الفرقان ۷۵)

علاوہ ازیں سورۃ الاحزاب (۵۶) میں ایمان والوں کو نبی ﷺ پر درود و سلام بھیجئے/ پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے۔

اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام اللہ ذوالجلال کے احکامات و پیغامات کی ترسیل کے لئے جب بھی بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضری دیتے تو پہلے اللہ رب ذوالجلال کا ”سلام“ عرض کرتے۔

ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو ”السلام علیکم“ کہہ، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ کو ”سلام“ بھیج اور ایک مرتبہ ”قل هو اللہ احد“ پڑھ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس پر رزق کھول دیا۔ حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچایا۔ (حوالہ: آپ کوثر، ص ۶۶)

یہی وہ پس منظر ہے کہ جس سے درود و سلام کی رفعت و عظمت پر روشنی پڑتی ہے چنانچہ شعر و ادب کی تاریخ قدیم و جدید میں وہ شعراء کرام جنہوں نے مدح رسول ﷺ/نعت گوئی کی سعادت حاصل کی وہ شاعری کی صنف ”سلام“ کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ سلام میں بھی نعت ہی کی طرح کے مضامین عقیدت و محبت سموائے جاتے ہیں۔ نعت و سلام سراسر ایمانیات کی شاعری ہیں۔ ایک نکتہ ایمانی کو طاہر سلطانی نے کس سادگی اور وارفتگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

سرکار کی سرکار میں کیا پیش کروں میں

اولاد بھی ماں باپ بھی حاضر ہے مری جان

جناب شہزاد احمد (مدیر حمد و نعت کراچی) نے اپنے ایک مقالہ میں ”سلام رضا کی تضمین نگاری“ کو موضوع بناتے ہوئے بجا طور پر لکھا ہے کہ ”درود و سلام کے عرش رسا نعمات ہر زبان اور ہر عہد میں گونجتے رہے عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں درود و سلام کی نادر و نایاب مثالیں موجود ہیں۔ اردو زبان میں بھی درود و سلام کا دافر حصہ موجود ہے۔ بہت سے سلام مقبول ہیں۔“

حضرت احمد رضا بریلوی کے مشہور نامہ سلام ”منصفانہ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام“ سے ”سلام“ کی صنف کو ایک عروج عطا ہوا اور پھر بے شمار شعراء نے یہ سعادت حاصل کی۔ یہ بھی ایک المیہ ٹھہرا کہ بڑے صغیر پاک و ہند میں ”سلام“ کے پڑھنے کو ایک متنازع عنوان بنا دیا گیا ہے۔ مختلف مکاتب فکر اس سلسلے میں مختلف زاویہ ہائے نگاہ رکھتے اور پیش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ان سب کی شدت پسندی مناسب محسوس نہیں ہوتی ہے۔

ادھر برادر گرامی طاہر سلطانی کے دل میں یہ خیال جاگزیں ہوا کہ اردو شاعری میں ”سلام“ کا جس قدر ذخیرہ موجود ہے اس کو حتی المقدور یکجا کر کے ”ایک تحفہ سلام“ حضور

اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں نذر کیا جائے چنانچہ انہوں نے اس کی جمع تدوین اور تلاش و جستجو کا کام شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ متقدمین سے عصر حاضر تک جس قدر بھی معروف غیر معروف شعراء کے سلام ہائے عقیدت دستیاب ہو جائیں ان سب کو شامل کتاب کر لیا جائے۔ علاوہ ازیں انہوں نے عصر حاضر کے متعدد شعراء کرام سے کچھ نئے ”سلام“ بھی تخلیق کروائے اور اس طرح دو سے زائد شعرا و شاعرات کے سلام عاجزانہ پر مشتمل یہ اولین شعری تالیف ”سلام“ ہمارے سامنے موجود ہے۔

ذکر رسول ﷺ کسی بھی انداز میں ہو وہ نثر ہو یا نظم، وہ نعت ہو قصیدہ ہو یا سلام وہ فقط خوشبو ہی خوشبو ہوتا ہے، وہ مہک مہک ہی ہوتا ہے، وہ معطر ہی معطر ہوتا ہے، یہ خوشبو بات سے مزین ”سلام“ کی پہلی جلد ہے۔ اس میں شامل دورِ قدیم تا عصر حاضر شعراء کرام کی آنحضرت ﷺ سے والہانہ محبت و روحانی شیفنگی کے روح آویز جذبات سے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور ذکر رسول ﷺ کی خوشبو سے دل و جاں سرشار ہو جاتے ہیں۔

اے رب کریم ذوالجلال ورحیم! جس طرح حضرت شیخ امام محمد شرف الدین بوسیری نے اپنا قصیدہ جاں فزا پیارے رسول ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور اسے شرف قبولیت و سرفرازیت کی سند عطا ہوئی اور وہ ”غم و آلام“ سے نجات پا گئے تھے۔ یہ مجموعہ تحفہ ”سلام“ بھی قبول بارگاہ ہو جائے، جملہ مرحوم شعراء کی مغفرت ہو جائے مزید ان کے درجات بلند ہو جائیں، ذی حیات شعراء کرام کتاب کے مؤلف و معاونین اور اس بندہ ناچیز و حقیر کو بھی دین و دنیا کی بلندیاں عطا ہوں۔ آمین

بر محمد ﷺ می رسانم صد سلام

آپ ﷺ شفیع مجرماں یوم القیام

(حوالہ: آب کوثر، ص ۶۶)



يا شفيع النورى سلام عليك
يا نبي الهدى سلام عليك
خاتم الانبياء سلام عليك
سيد الاصفيا سلام عليك
اعظم الحق اشرف الشرفا
افضل الازكيا سلام عليك
احمد ليس مثلك احد
مرحبا مرحبا سلام عليك
كشفت منك ظلمة الظلما
انت بدر الدجى سلام عليك
سیدی یا حبیبی مولائی
لك روحى فدا سلام عليك
صلوة الله على المصطفى
افضل الانبياء سلام عليك
هذا قول غلامك عشقى
منه يا مصطفى سلام عليك

علامہ سید عشق



مصطفیٰ ﷺ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام
شہریارِ ارم تاجدارِ حرم
نو بہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام
شبِ اسریٰ کے دولہا پہ دائمِ درود
نوشہٴ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام
عرشِ تافرش ہے جس کے زیرِ تگئیں
اس کی قاہرِ ریاست پہ لاکھوں سلام
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود
ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام
جس کے آگے سرِ سروراں خم رہیں
اُس سر تاجِ رفعت پہ لاکھوں سلام
مجھ سے بیکس کی دولت پہ لاکھوں درود
مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام
جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں
اُس گلِ پاکِ منبت پہ لاکھوں سلام

جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا
 اُس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام
 جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی
 اُن بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام
 جس طرف اُٹھ گئی دم میں دم آگیا
 اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام
 وہ زباں جس کو سب گُن کی کنجی کہیں
 اُس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام
 جس سے تاریک دل جگمگانے لگے
 اُس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام
 جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
 اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام
 غوثِ اعظم امامِ اتقے والقی
 جلوۂ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام
 ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں
 شاہ کی ساری اُمت پہ لاکھوں سلام
 مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا
 مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

مولانا امام احمد رضا خاں قادری بریلوی



اُن ﷺ پر درود جن کو حجر تک کریں سلام
اُن ﷺ پر سلام جن کو تخت شجر کی ہے
اُن ﷺ پر درود جن کو کس بیساں کہیں
اُن ﷺ پر سلام جن کو خیر بے خبر کی ہے
جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام
یہ بارگاہِ مالکِ جن و بشر کی ہے
خستہ جگر سلام کو حاضر ہیں السلام
مرہم یہیں کی خاک تو خستہ جگر کی ہے
اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام
یہ گرد ہی تو سرمہ سب اہل نظر کی ہے

مولانا احمد رضا خاں قادری بریلوی



یا نبی شُم پہ بار بار سلام
بے عدد اور بے شمار سلام
روزِ اول سے لے کے تا بہ ابد
آپ پر روز سو ہزار سلام
یہ بھی تھوڑا ہے آپ کی خاطر
بھیجے گر کروڑ بار سلام
عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ
کافی خستہ و نزار سلام
سید کائنات، و خیر انام
ان کے اوپر ہزار بار سلام
عینِ ایماں ہے آپ کی الفت
ہے یہی دین اور یہی اسلام
کشتہ شوق کافی مشتاق
بھیج لیل و نہار و صبح و شام
بجناب نبی حبیب خدا
ہدیہ رحمت و درود و سلام

مولانا کفایت علی کاشی شہید



السلام اے نبی کریم نہاد
السلام اے خلاصہ ایجاد
السلام اے نبی شفیع ام
عین احسان و رحمت عالم
السلام اے انیس مسکیناں
السلام اے جلیس غم گیناں
السلام اے رفیق بیماراں
السلام اے شفیق غم خواراں
بہ جناب تو کافی ناکام
می کند عرض صلوة و سلام

مولانا کفایت علی کافی شہید



خلدِ بریں خوب ہے آراستہ
فرش سے تا عرش ہے پیراستہ
آؤ چلے آؤ بڑھاتے قدم
دیر سے مشتاق ہیں آمد کے ہم

اے مرے محبوب سلام علیک

اے مرے مطلوب سلام علیک

آؤ چلے آؤ کہ قدسی تمام

باندھے ہوئے صف ہیں برائے سلام

آؤ چلے آؤ کہ رضوانِ خلد

تم پہ تصدق کرے سامانِ خلد

اے مرے محبوب سلام علیک

اے مرے مطلوب سلام علیک

یہ تو بیاں ہے شبِ معراج کا

ذکرِ رسولوں کے ہے سرتاج کا

کیا کہے پچارہ امیرِ فقیر

جب کہے خود ربِ جلیل و قدیر

اے مرے محبوب سلام علیک

اے مرے مطلوب سلام علیک

مولانا امیر مینائی



یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے
عرش کے معراج والے عاصیوں کی لاج والے

یا نبی سلام علیک ، یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک ، صلوات اللہ علیک

ہے یہ حسرت در پہ آئیں اشک کے دریا بہائیں
داغ سینے کے دکھائیں سامنے ہو کر سنائیں

یا نبی سلام علیک ، یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک ، صلوات اللہ علیک

جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا
خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا

یا نبی سلام علیک ، یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک ، صلوات اللہ علیک

میرے مولا میرے سرور ہے یہی ارمانِ اکبر
پہلے قدموں میں رکھے سر پھر کہے یہ سر کو اٹھا کر

یا نبی سلام علیک ، یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک ، صلوات اللہ علیک

مولانا خواجہ محمد اکبر وارثی رحمۃ اللہ علیہ



علیک السلام اے امین الہی
کہا جو خدا نے وہ تو نے سنایا
علیک السلام اے رفیع الدرج
کسی نے نہیں تیرے رتبے کو پایا
علیک السلام اے ستودہ خصائل
فدا خلق پر تیرے اپنا پرایا
علیک السلام اے امانِ دو عالم
ترا دامنِ لطف ہے سب پہ چھایا
علیک السلام اے محبتِ غریباں
ترے علم نے بارِ امت اٹھایا
علیک السلام اے تجھے ذاتِ حق نے
جو مرسل بنایا تو آخر دکھایا
علیک السلام اے شہنشاہِ وحدت
کہ توحید کا تو نے سکہ بٹھایا
علیک السلام اے طیبِ نہانی
دلوں میں جو تھے روگ سب کو مٹایا
علیک السلام اے سوارِ سبکِ رو
کسی نے تری گردِ راہ کو نہ پایا
علیک السلام اے ہدایت کے مرکز
تجھے حق نے انسانِ کامل بنایا

مولانا اسماعیل میرٹھی



آئے جنابِ مصطفیٰ ﷺ ، اُن ﷺ پہ درود اور سلام
آیے رحمتِ خدا ، اُن ﷺ پہ درود اور سلام
خاتمِ جملہ انبیاء ، اُن ﷺ پہ درود اور سلام
اُن پہ صلوةِ دائما ، اُن ﷺ پہ درود اور سلام

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ

قطرہ ہے بحرِ کائنات اُس کے یمِ وجود کا
ذرہ ہے بزمِ دو جہاں ، آبروئے شہود کا
مژدہ بخشش گناہ فیض ہے اُس کے جود کا
اُمّتیاںِ مصطفیٰ ﷺ وقت ہے یہ درود کا

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ

علامہ سیماب اکبر آبادی



السلام اے خاتمِ پیغمبراں
السلام اے سرِ فرازِ سروراں
السلام اے مبداءِ ابتدا
السلام اے منجائے انتہا
السلام اے مفرِّمِ الکتاب
السلام اے شافعِ یومِ الحساب
السلام اے عاصیوں کے تکیہ گاہ
امتِ کمزور کے پشت و پناہ
السلام اے نامرادوں کے مراد
السلام اے خائفِ رب العباد
السلام اللہ کا تجھ پر سلام
ہر گھڑی ہر لحظہ ہر دم تا دوام
السلام اے نورِ ذاتِ لم یزل
السلام اے تو ہی تھا روزِ ازل
ہو یہ کہتے کہتے میرا اختتام
السلام اے عینِ ایماں السلام

حافظ پبلی بھیتی



اے دینِ حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم
میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم
بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے
رحم اے حبیبِ داور تم پر سلام ہر دم
دریوزہ گر ہوں میں بھی ادنیٰ سا اس گلی کا
لطف و کرم ہو مجھ پر تم پر سلام ہر دم
کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے داد چاہوں
سلطان بندہ پرور تم پر سلام ہر دم
محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ
بس اک تمہی ہو یاور تم پر سلام ہر دم
کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں
اے بیکسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم
اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدارا
کیجئے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم

مولانا حسن رضا خاں بریلوی



اے مدینہ کے تاجدار سلام
اے غریبوں کے غمگسار سلام
تیری اک اک ادا پہ اے پیارے
سو درودیں فدا ہزار سلام
میرے پیارے پہ میرے آقا ﷺ پر
میری جانب سے لاکھبار سلام
اُس پناہ گناہگاراں پر
یہ سلام اور کروڑ بار سلام
وہ سلامت رہا قیامت میں
پڑھ لئے جس نے دل سے چار سلام
عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا
تجھ پہ اے خلد کی بہار سلام

مولانا حسن رضا خاں بریلوی



تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام
سب سے اعلیٰ عزت والے غلبہ و قہر و طاقت والے
حرمت والے کرامت والے تم پر لاکھوں سلام
تم پر لاکھوں سلام

آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا
رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام
تم پر لاکھوں سلام

رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے
اے دامانِ رحمت والے تم پر لاکھوں سلام
تم پر لاکھوں سلام

دھو دیں گندہ کالے ابر کرم کے برسین جھالے
گیسوؤں والے رحمت والے تم پر لاکھوں سلام
تم پر لاکھوں سلام

عرشِ علا پر رب نے بلایا اپنا جنوہ خاص دکھایا
خلوت والے جلوت والے تم پر لاکھوں سلام
تم پر لاکھوں سلام

خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ
اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام
تم پر لاکھوں سلام

مفتی اعظم ہند عبدالصطفیٰ رضا خاں قادری نوری



آمنہ کا جسے چاند کہتی ہے خلق
اُس مہ اورج عظمت پہ لاکھوں سلام
چاند تاروں کو جس سے ملیں تابشیں
اُس کے جلوؤں کی وسعت پہ لاکھوں سلام
جس کی عزت کے وعدے خدا نے لئے
اُس کی توقیر و عزت پہ لاکھوں سلام
جس نے دیکھا جمالِ خدا بے حجاب
اُس کی عینی شہادت پہ لاکھوں سلام
جس نے من زارِ قبری کا مژدہ دیا
اُس کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام
جس کی ہر جنبش لب ہے وقفِ دعا
اُس دعا اس اجابت پہ لاکھوں سلام
دست بستہ ضیا چل کے پھر کیجئے
اپنے آقا کی تربت پہ لاکھوں سلام

مولانا الحاج محمد یعقوب حسین ضیاء القادری بدایونی



محبوبِ ذوالکرم ﷺ تک میرا سلام لے جا
سلطانِ ذی حشم تک میرا سلام لے جا
شاہنشاہِ عجم تک میرا سلام لے جا
دربارِ محترم تک میرا سلام لے جا
بادِ صبا! حرم تک میرا سلام لے جا
بزمِ شہدِ اُمم تک میرا سلام لے جا
پھر اے صبا! ادب سے میرا سلام کہنا
سرکارِ دو جہاں ﷺ سے میرا سلام کہنا

مولانا ضیاء القادری



یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوة اللہ علیک
آج وہ تشریف لایا جس نے روتوں کو ہنسایا
جس نے جلتوں کو بجھایا جس نے بگڑوں کو بنایا

یا نبی سلام علیک

عرشِ اعظم کا ستارا فرشِ والوں کا سہارا
آمنہ بی بی کا دلارا حق تعالیٰ کا پیارا

یا نبی سلام علیک

دو جہاں کا راج والا تخت والا تاج والا
بیکسوں کی لاج والا ساری دنیا کا اُجالا

یا نبی سلام علیک

تم بہارِ باغِ عالم تم نویدِ ابنِ مریم
تم پہ قرباں سارا عالم اولادِ آدم

یا نبی سلام علیک

تم بنائے دوسرا ہو کعبے والے کی دعا ہو
تم ہی سب کے مدعی ہو جاں نہ کیوں تم پر فدا ہو

یا نبی سلام علیک

عرض ہے سالک کی آقا جانگنی کا ہو یہ نقشہ
سامنے ہو پاک روضہ اور لبوں پر ہو یہ کلمہ

یا نبی سلام علیک

مفتی احمد یار خاں نعیمی قادری بدایونی سالک سمراتی



یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوة اللہ علیک
سید اولاد آدم رحمت عالم مجسم
حاضر دربار ہیں ہم عرض یہ کرتے ہیں پیہم
یا نبی سلام علیک

تم شفیع عاصیاں ہو سید شاہ جہاں ہو
چارہ بے چارگاں ہو درد مند بے بساں ہو
یا نبی سلام علیک

سیدی بیمار ہوں میں اور ضعیف و زار ہوں میں
تخت عصیاں کار ہوں میں اپنے اوپر بار ہوں میں
یا نبی سلام علیک

نفس و شیطان نے ستایا اچھے کاموں کو بھلایا
سب گناہوں میں پھنسایا در پہ ہوں فریاد لایا
یا نبی سلام علیک

یہ علیم خفتہ قسمت تمام کر دامن رحمت
مانگتا ہے اپنی حاجت باز ہو باب اجابت
یا نبی سلام علیک

علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی قادری رضوی



سرور انبیا تجھ پہ لاکھوں سلام
سید اصفیا تجھ پہ لاکھوں سلام
خاصہ کبریا تجھ پہ لاکھوں سلام
انے مرے مصطفیٰ ﷺ تجھ پہ لاکھوں سلام
نور ذاتِ خدا تجھ پہ لاکھوں سلام
جلوہ حق نما تجھ پہ لاکھوں سلام
آفرینش تری مایہ کائنات
نور تو خلق کا تجھ پہ لاکھوں سلام
تیری نسبت سے عز و شرف خلق کو
مل گیا ، ہو گیا تجھ پہ لاکھوں سلام
پل پہ ، میزان پہ ، حوض کوثر پہ تو
خلق کا مدعا تجھ پہ لاکھوں سلام
اصل ایجاد و موجود و نور وجود
جانِ خلقِ خدا تجھ پہ لاکھوں سلام
نطقِ حامد پہ جاری ہے صنِ علی
رخ ترا و انصافی تجھ پہ لاکھوں سلام

مولانا شاہ محمد عبدالحماد قادری بدایونی



روز و شب روح سرور پہ لاکھوں سلام
ہر گھڑی جسم اطہر پہ لاکھوں سلام
اپنے پیارے پیمبر پہ لاکھوں سلام
شافعِ روزِ محشر پہ لاکھوں سلام
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی
آپ کے روئے انور پہ لاکھوں سلام
آپ کی ذات ہے اک سحابِ کرم
رحمتِ ربِّ اکبر پہ لاکھوں سلام
آپ نے پائیں معراج کی رفعتیں
آپ کے اوجِ اختر پہ لاکھوں سلام
عاصیوں کو پلائے خمِ معرفت
ساتی حوضِ کوثر پہ لاکھوں سلام
السلام اے شفیعِ حلیم و کریم
سایہٴ لطفِ داور پہ لاکھوں سلام
دعویٰ عشقِ سرور اگر ہے اثر
بھیج روئے پیمبر ﷺ پہ لاکھوں سلام

مولانا اثر زبیری لکھنوی



جلوۂ حُسنِ وحدت پہ لاکھوں سلام

ذاتِ ختمِ نبوت پہ لاکھوں سلام

خلد معمور ہو کر کہ مشکور ہے

شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

صبحِ روزِ شفاعت پہ لاکھوں درود

قاسمِ باغِ جنت پہ لاکھوں سلام

جس کے چھینٹوں نے آتش کو گلشن کیا

اس خلیلِ ابرِ رحمت پہ لاکھوں سلام

وہ دعا تم نے کی اے خدا کے خلیل

جس کی صبحِ اجابت پہ لاکھوں سلام

خواب پر آمنہ کے کروڑوں درود

ان کی بیدار قسمت پہ لاکھوں سلام

فتر و فاقہ پر ہے فخر جس شاہ کو

اس کے صبر و قناعت پہ لاکھوں سلام

قبر جس کی توجہ سے پُر نور ہو

خاکی اس شمعِ وحدت پہ لاکھوں سلام

مولانا محمد خلیل خاکی چشتی صابری امر وہو



میرے سلطان باوقار سلام
شہریاروں کے شہریار سلام
اے شہرِ عرشِ اقتدار سلام
اے مدینے کے تاجدار سلام
اے غریبوں کے غمگسار سلام

میرے بچا پہ ، میرے ماویٰ پہ
میرے سرور پہ میرے مولیٰ پہ
میرے مالک پہ میرے داتا پہ
میرے پیارے پہ میرے آقا پہ
میری جانب سے لاکھ بار سلام

جبکہ میری تلاش حشر میں ہو
بندہ رسوا نہ کاش حشر میں ہو
لطفِ حق لطفِ پاش حشر میں ہو
پردہ میرا نہ فاش حشر میں ہو
اے میرے حق کے رازدار سلام

پُر	مسترت	رہا	قیامت	میں
مُحُو	مدحت	رہا	قیامت	میں
زیر	رحمت	رہا	قیامت	میں
وہ	سلامت	رہا	قیامت	میں

پڑھ لئے جس نے دل سے چار سلام

مولانا اختر الحامدی



موتی آواز والے
غیب والے ، راز والے
بے کسوں کے ناز والے
ہو کرم ، اعجاز والے
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوة اللہ علیک
سرورِ ہر دو جہاں ہو
غم گسار بے کساں ہو
رہنمائے رہبراں ہو
تم ہی میرے کارواں ہو
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوة اللہ علیک
ایک دیوانہ ملا تھا
پاؤں سب کے پڑ رہا تھا
ہو کے بیگل رو رہا تھا
دست بستہ کہہ رہا تھا
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوة اللہ علیک

مولانا بیگل اتساہی بلرام پوری



اے پناہ جہاں سلام علیک
تکیہ بے کساں سلام علیک
مطلع کن فکاں سلام علیک
مقطع مرسلاں سلام علیک
منزل تو مقام او ادنیٰ
گردِ راہ کہکشاں سلام علیک
خاکِ پائے مسافرِ بطحی
نازشِ آسماں سلام علیک
اے نسیمِ سحرِ زبورِ حقیر
با سُلیمیاں رساں سلام علیک
اے عزیزِ دلِ شکستہ دلاں
مرہمِ خستگان سلام علیک
چشمِ عالم نہ دید درِ دگرے
حسن و خوبی چناں سلام علیک
لطفِ فرما کہ ما شکستہ ترایم
لطفِ شایانِ شاں سلام علیک
برہمہ آلِ پاک و اصحابش
تخرِ ہر دم بخواں سلام علیک

مولانا خواجہ غلام تخرالدین سیالوی



یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک
یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک
نازشِ آدمِ محمدِ افضل و اکرمِ محمد
رحمتِ عالمِ محمدِ شافعِ اعظمِ محمد
یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک
یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک
نیرِ برجِ رسالتِ ماہِ تابانِ نبوت
مصدرِ فیض و کرامتِ منبعِ جود و سخاوت
یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک
یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک
باعثِ خلقِ جہاں ہو رونقِ کون و مکاں ہو
تم نہاں ہو تم عیاں ہو تم یہاں ہو تم وہاں ہو
یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک
یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک
آپ ہی شمسِ انجمی ہیں آپ ہی بدرالجمی ہیں
آپ ہی نورالہدیٰ ہیں آپ ہی کھفِ الوریٰ ہیں
یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک
یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک
آپ سے یہ التجا ہے حالِ امت کا برا ہے
یا نبی وقتِ دعا ہے لب پہ عاقل کے صدا ہے
یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک
یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک

مولانا عاقل اکبر آبادی



رسول معظم سلام علیکم
نبی مکرم سلام علیکم
ثناء تیری کرتا ہے قرآن کے اندر
خدائے دو عالم سلام علیکم
تیری یاد میں ایسی ساعت بھی آئے
میری آنکھ ہو غم سلام علیکم
یہ رب کی عطا ہے یہ رب کا کرم
ثناء خواں تیرے ہم سلام علیکم
ہمیں ہے بھروسہ شفاعت پہ تیری
مٹا حشر کا غم سلام علیکم
قیامت کے دن ساری مخلوق ہوگی
تیرے زیر پرچم سلام علیکم
یہ دیکھا ہے اکثر ہوا دردِ فرقت
تیرے ذکر سے کم سلام علیکم
لبوں پر رہے اس ریاضِ حزیں کے
تیرا ذکر ہر دم سلام علیکم

علامہ ریاض الدین سہروردی



تاجدارِ حرم اے شہنشاہِ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام
ہو نگاہِ کرم مجھ پہ سلطانِ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام
دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہِ مبیں
دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام
کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں موٹی کہیں
اے شفیعِ امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام
فکرامت میں راتوں کو روتے رہے عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے
تم پہ قربان جاؤں مرے منہ جبیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام
پھر بلاؤ مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو
کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام

مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی



اے شہنشاہِ مدینہ الصلوٰۃ والسلام
زینتِ عرشِ معلّٰی الصلوٰۃ والسلام
ربِّ ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے
حق نے فرمایا کہ بخشا الصلوٰۃ والسلام
دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود
کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلوٰۃ والسلام
مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود
ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلوٰۃ والسلام
بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے
جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلوٰۃ والسلام
سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں
کہہ رہا تھا ہر ستارۃ الصلوٰۃ والسلام
میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد
میرا لاشہ بھی کہے گا الصلوٰۃ والسلام

مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی



شام و سحر سلام کو حاضر ہیں السلام
شمس قمر سلام کو حاضر ہیں السلام
سب تاجور سلام کو حاضر ہیں السلام
جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام
بس اک نگاہ لطف شہنشاہ بحر و بر
سب بحر و بر سلام کو حاضر ہیں السلام
سرخم ہر ایک اوج کا ہے در پہ آپ کے
سب کزوفر سلام کو حاضر ہیں السلام
گل ہیں نثار قدموں پہ خم ہے جنین کوہ
سنگ و شجر سلام کو حاضر ہیں السلام
اے جان کائنات و مقصود کائنات
سب خشک و تر سلام کو حاضر ہیں السلام
راحت ملی ہے دامن عالم پناہ میں
شوریدہ سر سلام کو حاضر ہیں السلام
چارہ گر خلیل و میجائے کائنات
ختہ جگر سلام کو حاضر ہیں السلام

علامہ مفتی خلیل خان خلیل



گلِ باغِ رسالت پہ لاکھوں سلام
اس بہارِ شریعت پہ لاکھوں سلام
جس کے سائے میں عاصی چھپیں حشر میں
ایسے دامانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
جس کی آغوشِ رحمت نے ہم کو لیا
اُس کی اُلفتِ محبت پہ لاکھوں سلام
فکرِ امت میں جس کے کٹے روز و شب
ایسے حامیِ امت پہ لاکھوں سلام
جس کی صورت سے ظاہر ہو شانِ خدا
ایسی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام
جس نے باغِ دو عالم کو مہکا دیا
اُس کی زلفوں کی نکبت پہ لاکھوں سلام
جس سے محمود روشن کئے دو جہاں
اُس کی شمعِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

مولانا سید محمود احمد رضوی



سلام علیک اے حبیبِ خدا
سلام علیک اے حقیقتِ نما
سلام علیک اے مددگارِ دین
سلام علیک اے شہِ انبیا
سلام علیک اے شفاۓ خلیل
سلام علیک اے شہِ دوسرا
سلام علیک اے حسین و جمیل
سلام علیک اے مہِ اصفیا
سلام علیک اے معینِ خلیل
سلام علیک اے کرم آشنا
بروز جزا عاصیوں کے لیے
نہیں کوئی حامی تمہارے سوا
ہیں مشتاقِ مدت سے دیدار کے
دکھا دو ہمیں چہرہ پر ضیا
برا ہے جدائی میں احمد کا حال
دل و جاں سے وہ آپ ﷺ پر ہے فدا

مولانا احمد علی چاند پوری



یا خلیل احد سلام علیک
یا کلیم صمد سلام علیک
یا رسول خدا سلام علیک
یا نبی الورا سلام علیک
یا امیر عرب صلوة و سلام
یا قریشی لقب صلوة و سلام
یا رئیس عجم صلوة والسلام
یا امام ام صلوة والسلام
یا شہد مرسلین صلوة و سلام
سید العالمین صلوة سلام
چارہ فرما و چارہ ساز سلام
بے کس و بے نوا نواز سلام
ذی وقاروں کے ذی وقار سلام
تاجداروں کے تاجدار سلام

مولانا جامی بدایونی



سلام اے مہرباں و غم گسارِ امتِ عاصی
سلام اے رکھنے والے ہر گھڑی فکر گنہ گاراں
سلام اے داروئے امراضِ جسمانی و روحانی
سلام اے نبیؐ اکسیرِ دردِ ظاہر و پنہاں
سلام اے قاتلِ عم سے نہ بدلہ چاہنے والے
سلام اے بخشنے والے عدو کو دولتِ ایماں
سلام اے لینے والے عرشِ اعظم پر سلامی کے
سلام اے بارگاہِ عرش کے محبوب تر مہماں
سلام اے جاننے والے حقیقتِ دین و دنیا کی
سلام اے دیکھنے والے مکاں والا مکاں یکساں
سلام اے ڈالنے والے نظیرِ اصحابِ صفہ پر
سلام اے باٹنے والے اہلِ دل کو بادۂ عرفاں

مولانا جامی بدایونی



صاحبِ تاجِ عزت پہ لاکھوں سلام
واقفِ رازِ فطرت پہ لاکھوں سلام
قاسمِ کنزِ نعمت پہ لاکھوں سلام
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

جس کو بے چین رکھتا تھا اُمت کا غم
نیک و بد پر رہا جس کا یکساں کرم
وہ حبیبِ خدا وہ شفیعِ اُمم
شہریارِ ارم تاجِ دارِ حرم

نو بہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام

خواجہ تاشِ نصیرِ ثنا خواں ، رضا
وہ بریلی کے احمد رضا خاں رضا
لا کے صف میں مجھے اُن کے درباں ، رضا
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

سید نصیر الدین نصیر گولڑوی



یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوة اللہ علیک

رات یہ کتنی حسین ہے
آپ کے در پر جنہیں ہے
سامنے خلد بریں ہے
اب کوئی خواہش نہیں ہے

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوة اللہ علیک

عشق کا حاصل تمہیں ہو
شوق کی منزل تمہیں ہو
صبر کا ساحل تمہیں ہو
زینت محفل تمہیں ہو

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوة اللہ علیک

امت برہم کی سن لو
گر یہ پیہم کی سن لو
قبلہ عالم کی سن لو
طاہر پر خم کی سن لو

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوة اللہ علیک

مولانا محمد طاہر عثمانی کریمی



ابر لطف و عنایت پہ لاکھوں سلام منبع نور و نکبت پہ لاکھوں سلام

دافع رنج و آفت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

بحرِ جود و سخاوت پہ روشن درود فخرِ گلزارِ وحدت پہ روشن درود

ماہتابِ ہدایت پہ روشن درود مہرِ چرخِ نبوت پہ روشن درود

گلِ باغِ رسالت پہ لاکھوں سلام

سرورِ ہر دو عالم شہِ ذی چشم بزمِ میں جب پیمرا اسوۂ محترم

آگیا جوش پر ابر لطف و کرم شہرِ یارِ ارم تاجدارِ حرم

نوبہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام

جس نے چوروں کو بل میں ولی کر دیا فہم و ادراک سے شانِ جس کی ورا

لختِ قلبِ نبی سرورِ اولیاءِ غوثِ اعظمِ امامِ اثنی عشری

جلوۂ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام

ختم ہو نفسی نفسی کا جب سلسلہ جب ہو پیشِ نظرِ جلوۂ مصطفیٰ

کاش ہو یہ کلامِ حزیں ہمہوا جب کہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

موا اناکلامِ رضوی



اُن کی صورت اُن کی سیرت پر سلام
مصطفیٰ جانِ محبت پر سلام
جلوۂ حق نورِ وحدت پر سلام
شاہکارِ دستِ قدرت پر سلام
آمنہ کے لعل پر لاکھوں درود
خاتمِ دورِ رسالت پر سلام
معصیت کاروں کے والی پر درود
شافعِ روزِ قیامت پر سلام
جن کا دروہا ہجر بھی ہے کیفِ زا
اُن سے ملنے والی لذت پر سلام
یاد سے جن کی ہے لذت گیر دل
اُن کی جاں پرور عنایت پر سلام
زائرانِ روضہ پر ظِلِّ خدا
اُن کے جذباتِ عقیدت پر سلام
الغرض جن کو بھی نسبت اُن سے ہے
ہو اسی اندازِ نسبت پر سلام

حافظ مظہر الدین



سلام اُس پر نشانِ زیست ہیں نقشِ قدم جس کے
قصیدے روز و شب کہتی ہے میری چشمِ نم جس کے
سلام اُس پر کہ جو ہر بات میں اعجاز رکھتا ہے
زمانہ جس کی اُلفت کے کئی انداز رکھتا ہے
سلام اُس پر کہ جو نام کو سینے سے لگاتا ہے
جو تائب کو نویدِ بخشش و رحمت سُناتا ہے
سلام اُس پر کہ جس کی عائشہ کے گھر میں تربت ہے
جو ٹکڑا رُوکشِ فردوس ہے تنویرِ رحمت ہے
سلام شوقِ حافظِ سیدِ ابرار تک پہنچے
مرا اٹکِ الم دربارِ گوہر بار تک پہنچے

حافظ لدھیانوی



سلام اُس پر خدا کے بعد جس کی شان یکتا ہے
جو ممدوحِ خدائے پاک ہے جو سب کا آقا ہے
سلام اُس پر کہ جس کا عشق ہے سرمایہ ہستی
سلام اس پر کہ ہے آباد جس سے درد کی بستی
سلام اُس پر جو عفو و درگزر سے کام لیتا ہے
زبانِ اشک سے جس کا زمانہ نام لیتا ہے
سلام اُس پر نگاہِ فیض سے جس کی ہے دل زندہ
جہانِ سوز و مستی جس کی اُلفت سے ہے تابندہ
سلام اُس پر حرمِ جس کا ہے مرکز نور و نکہت کا
صلہ اشکِ ندامت کو جہاں ملتا ہے جنت کا
سلام اُس پر کہ جس سے غم زدہ تسکین پاتے ہیں
زمانے کے ستارے دامنِ رحمت میں آتے ہیں
سلام اُس ذاتِ اقدس پر جو ہے شہکارِ فطرت کا
سلام اُس پر کہ مومن پر ہے جو احسانِ قدرت کا
سلام عاجزانہ ہو قبولِ شافعِ محشر
اسی کے لطف کا سایہ رہے حافظِ مرے سر پر

حافظ لدھیانوی



اے کاش ! پھر مدینہ میں اپنا قیام ہو
دن رات پھر لبوں پہ درود و سلام ہو
پھر ذکرِ لا الہ ، مرا حرزِ جاں رہے
اور وقتِ واپسی یہی میرا کلام ہو
محرابِ مصطفیٰ میں ہو ، معراجِ سر نصیب
پھر سامنے وہ روضہ خیر الانام ﷺ ہو
پھر کاش ! میں مکینِ حرمِ مصطفیٰ ﷺ بنوں
فصلِ خدا سے روضہ جنت مقام ہو
جس کو وہ ﷺ خود یہ کہہ دیں کہ میرا غلام ہے
دوزخ کی آنچ اُس پہ یقیناً حرام ہو
اے کاش ! پھر مدینہ میں اپنا قیام ہو
دن رات پھر لبوں پہ درود و سلام ہو

مفتی محمد شفیع



سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی
سلام اس پر کہ اسرارِ محبت جس نے سمجھائے
سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے
سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں
سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی
سلام اس پر ابوسفیان کو جس نے اماں دے دی
سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں
سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں
سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے
سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے
سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا
سلام اس پر کہ ٹوٹا بوزیا جس کا بچھونا تھا
سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی
سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی

مولانا ماہر القادری



سید الانبیاء ﷺ ، خاتم المرسلین ﷺ نور رب العالی رحمتہ العالمیں ﷺ
سرور اصفیاء ﷺ شافع مذنبین ﷺ احمد مصطفیٰ ﷺ شاہ دنیا و دیں ﷺ

اے حبیب خدا ﷺ روز و شب صبح و شام

تم ﷺ پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام

فخر جن و بشر ، نعمت بے بہا نازش بحر و بر ، صدر بزم ہدی
کیما ہر نظر ، معجزہ ہر ادا فرش سے عرش پر ، عشق جلوہ نما

اے حبیب خدا ﷺ روز و شب صبح و شام

تم ﷺ پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام

اول نور اور آخر مرسلین مایہ ناز کل ، اولیں آخریں
انبیاء و ملائک سے افضل ترین بلکہ بعد از خدا مقتدا بالیقین

اے حبیب خدا ﷺ روز و شب صبح و شام

تم ﷺ پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام

ہے جمیل آپ ﷺ ہی کا جو ادنی غلام لے کے آیا ہے تحفہ درود و سلام
کیجئے اس کو مقبول ، خیر الانام اس کی برکت سے بن جائے گا اس کا کام

اے حبیب خدا ﷺ روز و شب صبح و شام

تم ﷺ پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام

مولانا جمیل احمد تھانوی



شاہِ دین ﷺ باعثِ تسکینِ دل و جاں کو سلام
یعنی محبوبِ خدا ﷺ سرورِ ذیباں کو سلام
سبز گنبد میں جو سنتا ہے بصد ناز و ادا
ایک مہجور کا اس حُسنِ بداماں کو سلام
صحنِ گلزار ہے دل جس کے تصور سے مرا
گلشنِ خلد کے اس سر و خراماں کو سلام
حجرۂ عائشہ میں ہے مہِ تاباں جو نہاں
بصد آدابِ نیاز اس مہِ تاباں کو سلام
جگمگا اٹھی فضائے رخِ کعبہ جس سے
اس قندیلِ حرم ، ماہِ فروزاں کو سلام
زندگی جس کی غریبوں کے لیے وجہ سکوں
اس شبِ ہر دوسرا ، شاہِ غریباں کو سلام
کاش وہ دن بھی میسر ہو فریدی مجھ کو
عرض میں جا کے کروں سرورِ ذی شام کو سلام

مفتی نسیم احمد فریدی



ہر پیغمبر ہے امت کا اپنی امام میرا پیارا نبی ﷺ ہے امام انام
میرے آقا ہیں محبوب رب انام سب سے اعلیٰ ہے میرے نبی ﷺ کا مقام
سارے عالم میں مشہور ہے ان کا نام
ان پہ لاکھوں درود ، ان پہ لاکھوں سلام
سارے نبیوں کے میرے نبی ﷺ ہیں امام آپ ﷺ پر دین حق ہو گیا ہے تمام
عرش سے ان کا برتر ہے عالی مقام فرش پر پھر حبیب خدا ﷺ کا قیام
کس قدر ہے تواضع کا یہ اہتمام
ان پہ لاکھوں درود ، ان پہ لاکھوں سلام
بے کسوں کا کیا کرتے تھے آپ ﷺ کام مفلسوں کی حوائج کا بھی انتظام
پھر غریبوں کی محفل کا تھا التزام دل سے کرتے تھے دشمن کا بھی احترام
عادت پاک تھی خدمتِ خاص و عام
ان پہ لاکھوں درود ، ان پہ لاکھوں سلام
شاہِ شاہانِ دنیا میں ان کا غلام دونوں عالم میں پائے گا وہ احترام
ان کا جو ہو گیا اس کا جنت مقام عاشقانِ نبی ﷺ پر جہنم حرام
غازی بے نوا بھی ہے ان کا غلام
ان پہ لاکھوں درود ، ان پہ لاکھوں سلام
مولانا نسیم احمد غازی مظاہری



فخرِ انسانیت انبیاء کے امام آسمانِ ہدایت کے ماہِ تمام
دونوں عالم کے سردار خیر الانام احمد مصطفیٰ ﷺ مجتبیٰ لاکلام

نام نامی لیوں پر بصد احترام

ان پہ لاکھوں درود ، ان پہ لاکھوں سلام

خوابِ غفلت میں انساں تھا سویا ہوا سارے عالم پہ چھائی تھی کالی گھٹا

یک بیک سوئے بٹھا جو چمکی کرن راتِ رخصت ہوئی اور سویرا ہوا

نور سے جگمگانے لگے صبح و شام

ان پہ لاکھوں درود ، ان پہ لاکھوں سلام

کبر و نخوت کے بت ٹوٹ کر گر پڑے ظلم و طغیاں کے آتش کدے بجھ گئے

عدل و انصاف کی روشنی چھا گئی امن اور آتشی کے دیئے جل گئے

آگیا مصطفیٰ ﷺ کا خدائی

ان پہ لاکھوں درود ، ان پہ لاکھوں سلام

جسم سے روح جب ہو رہی ہو جدا ایسی حالت میں کر یہ کرم اے خدا

دل میں تصویر ہو روضہ پاک کی لب پہ جاری رہے کلمہ طیبہ

میرے بگڑے ہوئے سارے بن جائیں کام

ان پہ لاکھوں درود ، ان پہ لاکھوں سلام

مولانا امام علی دانش



حبیب یزداں شفیعِ اعظم ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
نہی رحمت رسولِ اکرم ﷺ ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہ جن کی آمد وروہ برکت ، وہ جن کی بعثت سراج امت
پیام جن کا محیطِ عالم ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہ جن کو رب نے عروج بخشا ، گواہ معراج کے وہ حامل
وہ صاحبِ رفعتِ مجسم ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہ تذکرہ جن کا جزوِ ایماں ، وہ ذکر جن کا سکون کا عنوان
جراحوں پر شفا کا مرہم ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہ جن کے اخلاق کے علو پر ، کلامِ پروردگار شاہد
وہ رحمتوں شفیقتوں کا سنگم ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہ زینتِ عظمتِ امامت ، وہ خاتمِ منصبِ رسالت
وہ نازش و فخرِ ابنِ آدم ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہ عاصیوں پر سحابِ شفقت ، شفیعِ امتِ کفیلِ جنت
وہ حشر کے دن نشاطِ پیہم ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر

مولانا کفیل الرحمن نشاط



میرے مولا کے محبوب، خیر البشر ﷺ، ہوں کروڑوں درود و سلام آپ ﷺ پر
کہہ رہی ہے خموشی سے ہر اک نظر، ہوں کروڑوں درود و سلام آپ ﷺ پر
زندگی میری بے کیف و بے نور تھی، گردشِ وقت میں گھر کے مجبور تھی
آپ ﷺ کی چاہ میں ہو گیا یہ سفر، ہوں کروڑوں درود و سلام آپ ﷺ پر
محسنِ بزمِ کل، نازشِ دو جہاں، آپ ﷺ کی رحمتیں برکتیں بے کراں
آپ ﷺ کی شان پر ہے فدا ہر بشر، ہوں کروڑوں درود و سلام آپ ﷺ پر
آپ ﷺ کا جو نہیں وہ خدا کا نہیں، آپ ﷺ سرکار ہیں رحمتِ عالمیں
آپ ﷺ نے دشمنوں کی بھی رکھی خبر، ہوں کروڑوں درود و سلام آپ ﷺ پر
آپ ﷺ کے در پہ سرکار حاضر ہوں میں، آپ ﷺ کی ذات ہے فخر، فاخر ہوں میں
میرے محسن، مربی، مرے راہبر، ہوں کروڑوں درود و سلام آپ ﷺ پر
ہے کرم مجھ کو بلو الیا آپ ﷺ نے، اپنے روضہ کو دکھلا دیا آپ ﷺ نے
عمر بھر ورنہ رہتی مری آنکھ تر، ہوں کروڑوں درود و سلام آپ ﷺ پر
راہ دکھلائی منصور کو آپ ﷺ نے، یہ بھٹک جائے منزل سے ممکن نہیں
ساری کونین کے آپ ﷺ ہیں راہبر، ہوں کروڑوں درود و سلام آپ ﷺ پر

علامہ منصور بجنوری



سلام اے کاشفِ اسرارِ موجودات ربانی
سلام اے ملکِ فطرت کے مبارک نقشِ لائٹانی
سلام اے صبحِ عالم اے سراجِ بزمِ امکانی
سلام اے قاطعِ زنجیرِ باطل تیغِ برہانی
سلام اے فخرِ آدمِ باعثِ تخلیقِ انسانی
سلام اے آفتابِ نور و حکمت ، نورِ ایمانی
ہوا آتشکدہ ٹھنڈا محل میں زلزلہ آیا
ہوئی جب آمنہ کے لال کی تشریفِ ارزانی
زمانہ آج تک ہے نازِ فرما تیری بعثت پر
کہ ٹکڑے ٹکڑے تو نے کر دیئے استارِ ظلمانی
عرب کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے مرحبا تجھ کو
سکھائے بدوؤں کو تو نے آدابِ جہاں بانی
ترے ہر حرف میں علم و معارف کے خزانے ہیں
رسائی کس طرح پائے وہاں تک عقلِ انسانی
ہوا اعلانِ جاء الحق کرنے بت سر کے بل مظہر
رہے گی تا ابد باقی اب اہل حق کی سلطانی

مولانا محمد اظہار الحق مظہر قاسمی



سلام اس پر ہے جس کا بوریا تختِ سلیمانی
غلاموں کے سروں پر جس نے رکھا تاجِ سلطانی
سلام اس پر کہ جس کا حکم فرمانِ الہی ہے
سلام اس پر فقیری جس کی رشکِ بادشاہی ہے
سلام اس پر دیا الفقرِ فخری کا سبق جس نے
سلام اس پر سنایا ہے پیامِ ذاتِ حق جس نے
سلام اس پر اندھیرے میں اُجالا کر دیا جس نے
سلام اس پر دلوں کو نورِ حق سے بھر دیا جس نے
سلام اس پر جہاں بھر میں خدا کا جو دلار تھا
سلام اس پر جو نبیوں میں انوکھا تھا نرالا تھا
سلام اس پر لقبِ جس کا جہاں میں کملی والا ہے
کہ جس کی ضو سے دنیا میں اجالا ہی اجالا ہے
سلام شوقِ می خوانم بہ جذباتِ فراوانی
سلام اے رحمۃ للعالمین محبوبِ سبحانی

مولانا بلالی علی آبادی



سلام اے آبروئے مسندِ توقیر انسانی
سلام اے نورِ بزمِ معرفت اے شمعِ یزدانی
سلام اے وہ کہ جس کی ہر ادا تفسیر قرآنی
کتابِ زندگی کا جس کی نقطہ نقطہ نورانی
مرے آقا ﷺ تری عظمت پہ یہ کون و مکاں صدقے
گداؤں سے ترے سیکھی ہے دنیا نے جہاں بانی
سلام اے منبعِ جود و کرم اے محسنِ عالم
شہِ کونین ، فخرِ انبیاء ، محبوبِ سبحانی
سلام اے رحمتہ للعالمین ﷺ اے نازشِ ہستی
ترے دریائے رحمت کی نہیں جاتی ہے طغیانی
تخیل چھو نہیں سکتا تری اعلیٰ مقامی کو
کہ جبریل امیں کرتے ہیں تیرے در کی در بانی
چراغِ راہِ فردوسِ نبریں ہر اک عمل تیرا
ترا ہر طرزِ لاٹانی ترا ہر نقشِ لافانی
نگاہِ لطف و رحمت ہو عطا کے حال پر آقا ﷺ
بروز حشر مل جائے اسے اذنِ ثنا خوانی

مولانا عطاء الرحمن عطاء مفتا



سلام علیک اے حبیبِ خدا
سلام علیک اے حقیقتِ نما
سلام علیک اے مددگارِ دین
سلام علیک اے شہِ انبیا
سلام علیک اے شفاءِ خلیل
سلام علیک اے شہِ دوسرا
سلام علیک اے حسین و جمیل
سلام علیک اے مہِ اصفیا
سلام علیک اے معینِ خلیل
سلام علیک اے کرمِ آشنا
روز جزا عاصیوں کے لئے
نہیں کوئی حامی تمہارے سوا
ہیں مشتاقِ مدت سے دیدار کے
دکھادو ہمیں چہرہٴ پُرضیا
برا ہے جدائی میں احمد کا حال
دل و جاں سے وہ آپ پر ہے فدا

مولانا احمد علی



ختمِ نورِ نبوت پہ لاکھوں سلام
شمعِ بزمِ رسالت پہ لاکھوں سلام
فخرِ عالم کی عظمت پہ لاکھوں سلام
صاحبِ شان و شوکت پہ لاکھوں سلام
عرش پر حق نے بلوایا معراج میں
اس پیغمبر ﷺ کی رفعت پہ لاکھوں سلام
حشر کے دن ہیں ، محکم سہارا وہی
اس رسولِ شفاعت پہ لاکھوں سلام
جس کی امت پہ شفقت رہی عمر بھر
اس نبی ﷺ کی محبت پہ لاکھوں سلام
خلق کو جس نے خالق سے ملوادیا
اس نبی ﷺ کی عنایت پہ لاکھوں سلام
خلق کے جس نے برسائے لعل و گہر
اس نبی ﷺ کی سخاوت پہ لاکھوں سلام
قول ہے جس کا ”الفقر فخری“ ظفر
اس نبی ﷺ کی قناعت پہ لاکھوں سلام

مولانا عبدالعزیز ظفر جنکپوری



اے مدینے کے تاجدار سلام
اے غریبوں کے غمگسار سلام
تیری اک اک ادا پہ اے پیارے
میری جانب سے لاکھ بار سلام
میری بگڑی بنانے والے پر
بھیج اے میرے کردگار سلام
اُس پناہ گنہ گاراں پر
یہ سلام اور کروڑ بار سلام
پردہ میرا نہ فاش حشر میں ہو
اے مرے حق کے راز دار سلام

علامہ سلام



السلام اے صیبِ خدا السلام
السلام اے شفیع الورا السلام
السلام اے شہ انبیاء السلام
السلام اے دلِ اولیاء السلام
آپ کے واسطے ہے یہ گل کی نمود
باعث و وجہ ارض و سما السلام
آپ ہی نے بتایا ہے حق کا پتہ
رہبر و ہادی و رہنما السلام
عرش پر آپ ہی تو بلائے گئے
اللہ اللہ یہ مرتبہ السلام
آپ ہی کی طرف ہے نگاہِ جہاں
السلام اے دلوں کی دُعا السلام
آج حاضر ہے بہزادِ دربار میں
بہرِ حسنین کچھ ہو عطا السلام

بہزاد لکھنوی



حبیب داور حبیب داور دُرود تم پر سلام تم پر
تمہارا ثانی نہ کوئی ہمسر درود تم پر سلام تم پر
یہ کہہ رہے ہیں بلال و بوذر درود تم پر سلام تم پر
اے میرے آقا اے میرے رہبر درود تم پر سلام تم پر
تمہیں ہو اعلیٰ تمہیں ہو برتر درود تم پر سلام تم پر
ہماری عقل رسا کے محور درود تم پر سلام تم پر
خدا کی ذات احد کا مظہر درود تم پر سلام تم پر
تمہیں ہو امت کے دل کے اندر درود تم پر سلام تم پر
حضور اتنا کرم بھی دیکھوں حضور چشم زدن میں پہونچوں
عطا ہو روح الامیں کا شہپر درود تم پر سلام تم پر
کوئی بھی حامی نہیں ہے میرا بجز تمہارے اے میرے آقا
حضور ﷺ دست کرم ہو سر پر درود تم پر سلام تم پر
بقا سا عاصی کہاں ملے گا بقا سا خالی کہاں ملے گا
عطا ہو کوثر پہ جام کوثر درود تم پر سلام تم پر
قسم خدا کی حبیب حق ہو قسم خدا کی رفیق رب ہو
بقا بھی ادنیٰ سا ہے سخور درود تم پر سلام تم پر

صوفی بقا نظامی عظیم آبادی



سلام لے حبیبِ واور ، مدینے والے سلام لے لو
سلام لے لو شفیعِ محشر ، مدینے والے سلام لے لو
ستارہی ہے دلوں کو دوری ، ہمیں بھی حاصل ہو اب حضوری
بلا لو آقا تم اپنے در پر ، مدینے والے سلام لے لو
ہیں بستِ بستہ غلام حاضر نگاہِ لطف و کرم ہو اُن پر
بنا دو بگڑا ہوا مقدر ، مدینے والے سلام لے لو
قرار حاصل دلوں کو ہوگا بہارِ خلد و جنان ملے گی
فقط تمہارے طفیلِ سرور ، مدینے والے سلام لے لو
کرم سے دامن بھرو ہمارے دکھا دو طیبہ کے اب نظارے
تمہارے صدقے یہ جان رہبر ، مدینے والے سلام لے لو

صوفی مسعود احمد رہبر چشتی



نبیوں کے سردارِ اعلیٰ الصلوٰۃ والسلام
آپ ہی یسین و طہ الصلوٰۃ و السلام
چاند کے ٹکڑے کئے الٹا پھرایا شمس کو
کیا تھا انگلی کا اشارہ الصلوٰۃ والسلام
اپنے عاصی کی شفاعت کیجئے گا یا رسول
شافعِ محشر خدارا الصلوٰۃ والسلام
ہر قدم پر رہ دکھائی امت گمراہ کو
ہر قدم بخشا سہارا الصلوٰۃ والسلام
قبر سے اٹھوں تو دامن آپ کا ہاتھوں میں ہو
دیکھوں میں جلوہ تمہارا الصلوٰۃ والسلام
مانگنے کی ہے گھڑی جو کچھ بھی چاہو مانگ لو
در ہے یہ جو دو سخا کا الصلوٰۃ والسلام
جلوۂ خیر البشر ہو کاش خوابوں میں مرے
چمکے قسمت کا ستارا الصلوٰۃ والسلام
آپ کے قدموں میں شاہا پہنچے اجمل بار بار
لب پہ ہو بس یہ ترانہ الصلوٰۃ والسلام

صوفی سید احمد اجمل قادری



اے شہید بحر و بر تم پہ لاکھوں سلام
حق نما حق نگر تم پہ لاکھوں سلام
تم ہو بدرالدجی تم ہو شمس الضحیٰ
تم ہو خیر البشر تم پہ لاکھوں سلام
ظلمت کفر کو دور تم نے کیا
تم نوید سحر تم پہ لاکھوں سلام
ایسی خوشبو کہ مہکے چمن در چمن
کھل گئے دل کے در تم پہ لاکھوں سلام
سارے نبیوں میں تم خاتم الانبیاء
تم ہوئے معتبر تم پہ لاکھوں سلام
کیا ہیں جن و بشر، کیا شجر، کیا حجر
تم کو سب کی خبر تم پہ لاکھوں سلام
شرق سے غرب تک، فرش سے عرش تک
ہے تمہاری نظر، تم پہ لاکھوں سلام
ایک جاوید کیا ذکر کی بزم میں
سب کی ہے چشم تر تم پہ لاکھوں سلام

صوفی جاوید اقبال معصومی



آپ ہیں محبوب داور الصلوٰۃ و السلام
ہیں شفیع روزِ محشر الصلوٰۃ و السلام
ظنِ سجاں پاک و اطہر الصلوٰۃ و السلام
نورِ مہر و ماہ و اختر الصلوٰۃ و السلام
پیشوائے ہر پیمبر الصلوٰۃ و السلام
شرحِ رازِ ربِّ اکبر الصلوٰۃ و السلام
سب سے افضل سب سے بہتر الصلوٰۃ و السلام
سب کے ہادی سب کے رہبر الصلوٰۃ و السلام
رونقِ محراب و منبر الصلوٰۃ و السلام
تاجدارِ ہفت کشور الصلوٰۃ و السلام
روزِ محشر امتِ عاصی رہے کیوں تشنہ کام
ساقیِ تسنیم و کوثر الصلوٰۃ و السلام
اپنی خوش بختی پہ اجمل کیوں نہ مجھ کو ناز ہو
سایہ افکن میرے سر پر الصلوٰۃ و السلام

صوفی اجمل قادری



طیبہ کے جانے والے، لے اک پیام لے جا
میرا سلام لے جا، میرا سلام لے جا
اے عازم مدینہ تجھ کو سفر مبارک
بطحا کی سرزمین کے شام و سحر مبارک
دشت و جبل مبارک، نخل و حجر مبارک
اُس ارضِ محترم کے دیوار و در مبارک
تجھ پر خدا کی رحمت، اے شاد کام لے جا
میرا سلام لے جا، میرا سلام لے جا
اے خوش نصیب تجھ کو وہ ساعتیں ملیں گی
بخت کی کیاریوں کی جب فرحتیں ملیں گی
سرکار ﷺ کی حضوری کی لذتیں ملیں گی
یعنی کہ دین و دنیا کی نعمتیں ملیں گی
اُس وقت کی دعا میں میرا بھی نام لے جا
میرا سلام لے جا، میرا سلام لے جا

حسرت موبانی



سلام اے آمنہ کے لال اے محبوبِ سبحانی
سلام اے فخرِ موجوداتِ فخرِ نوعِ انسانی
سلام اے ظلِ رحمانی سلام اے نورِ یزدانی
ترا نقشِ قدم ہے زندگی کی لوحِ پیشانی
سلام اے صاحبِ خلقِ عظیمِ انساں کو سکھلا دے
یہی اعمالِ پاکیزہ یہی اشغالِ روحانی
تری صورت تری سیرت ترا نقشہ ترا جلوہ
تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی
زمانہ منتظر ہے پھر نئی شیرازہ بندی کا
بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی
زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے
ترے پرتو سے مل جائے ہر اک ذرے کو تابانی
ترا در ہو مرا سر ہو مرادل ہو ترا گھر ہو
تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی
سلام اے آتشی زنجیرِ باطل توڑنے والے
سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے

حفیظ جالندھری



حضورِ شافعِ روزِ جزا سلامِ نیاز
بہ پیشِ قبلہ صدق و صفا سلامِ نیاز
بہ بارگاہِ نبی ﷺ الہدیٰ سلامِ نیاز
بہ آستانہ خیر الوریٰ سلامِ نیاز
بہ روحِ سرورِ ﷺ ہر دوسرا سلامِ نیاز
بہ نامِ خاصِ شہِ انبیا ﷺ سلامِ نیاز
بہ قبۃ حرمِ قدس بے شمار درود
بہ خوابِ گاہِ حبیبِ خدا ﷺ سلامِ نیاز
بہ نورِ روضۃ النور درود لا محدود
بہ خاکِ پاکِ درِ مصطفیٰ ﷺ سلامِ نیاز
حضور کا جنہیں قربِ دوام حاصل ہے
ان اہلِ عشق و وفا کو مرا سلامِ نیاز
بقیع میں ابدی نیند سونے والوں کو
بصدِ خلوص و عقیدت مرا سلامِ نیاز
نظر بہ چشمِ کرم سے بہت دنوں سے حمید
قبول کیجئے یا مصطفیٰ ﷺ سلامِ نیاز
یہ آرزو ہے کہ پھر اذنِ حاضری مل جائے
کروں میں عرض بہ صد التجا سلامِ نیاز
حریمِ خاص میں ہنگامِ آستانِ بوسی
درودِ پاک لبوں پر ہو یا سلامِ نیاز
حضورِ ﷺ سرورِ عالم قبول ہو جائے
حمیدِ خستہ و رنجور کا سلامِ نیاز

حمید صدیقی لکھنوی



سلام اے رہنمائے اعظم، سلام اے دوست کبریا کے
سلام اے بے کسوں کے بہم لباسِ ایماں مسک رہا ہے
سلام اے رحمتِ دو عالم ﷺ سلام اے ہادیِ مکرم
سلام اے رہبرِ معظم ﷺ یہ کارواں پھر بھٹک رہا ہے
سلام اے شہرِ علم و عرفاں سلام اے گنجِ رازِ پنہاں
سلام اے فکرِ خاصِ قرآن ہمیں زمانہ جھڑک رہا ہے



زبانِ شوق پہ آیا اس احترام کے ساتھ
فضا درود سے گونجی نبی ﷺ کے نام کے ساتھ
جب لے کے جائے مقدر ہمیں مدینے میں
درِ حضور ﷺ پہ دل بھی جھکے سلام کے ساتھ

صبا کبر آبادی



عرض کر دے جا کے کوئی اُن بہاروں کو سلام
جو کیا کرتی ہیں طیبہ کے نظاروں کو سلام
اے صبا سوئے مدینہ ہو اگر تیرا گزر
پیش کر دینا مرا اُن رہ گزاروں کو سلام
سبز گنبد پہ بچھاتا ہے جو شب بھر چاندنی
اُس فلک کو اُس فلک کے چاند تاروں کو سلام
صبح دم آتی ہیں جو روضے کی جالی چومنے
اُن ہواؤں کو فضاؤں کو بہاروں کو سلام
دامنوں میں جن کے پڑھتے تھے کبھی غازی نماز
اُن فلک منزل متور کو ہزاروں کو سلام
جن کے سائے میں ٹھہرتے تھے مہاجر راہگیر
اُن کھجوروں کے درختوں کی قطاروں کو سلام
گونجتی تھی عرش پر جن کی اذانوں کی صدا
صادق الایمان ، اُن طاعت گزاروں کو سلام
آج تک جن کا متور ہر نظر میں نور ہے
اُس متور سبز گنبد کے نظاروں کو سلام

متور بدایونی



سلام اُس پر کہ نام آتا ہے بعد اللہ کے جس کا
سلام اُس پر مقام آتا ہے بعد اللہ کے جس کا
سلام اُس پر جسے اللہ نے معبوث فرمایا
سلام اُس پر کہ جس نے پرچم توحید لہرایا
سلام اُس پر جو آیا نازش پیغمبراں بن کر
سلام اُس پر جو آیا درد مند انس و جاں بن کر
سلام اُس پر خدا نے خود محمد جس کو فرمایا
سلام اُس اجرِ رحمت پر کہ جس کا ہم پہ ہے سایا
سلام اُس پر کہ جو ختم الرسل محبوبِ داور ہے
سلام اُس پر کہ جو مظلوم انسانوں کا یاور ہے
سلام اُس پر جہاں میں جس پہ اتری آیتِ اقرأ
سلام اُس پر کہ لہرایا ہے جس نے رلیتِ اقرأ
سلام اُس پر لقب ہے رحمتہ للعالمین جس کا
سلام اُس پر دو عالم میں کوئی ثانی نہیں جس کا
سلام اُس پر سرِ فہرست ہے جو نیک ناموں میں
سلام اُس پر کہ راغب جس کے ہے ادنیٰ غلاموں میں

راغب مراد آبادی



سلام اے ابنِ عبداللہ ، تجلیات اے ابوالقاسم
سلام اے پورِ عبدالمطلب اے گوہرِ ہاشم
سلام اے نورِ چشمِ آمنہ اے ماہِ عدنانی
سلام اے دفترِ رشد و ہدیٰ کے خاتم و خاتم
سلام اے باغِ ابراہیم کے سروِ بہارِ افشاں
سلام اے کائناتِ آب و گل میں حسن کے ناظم
سلام اے نورِ یزداں روحِ عرفاں حاصلِ ایماں
سلام اے حرفِ آغازِ الست اے اولیں مسلم
سلام اے بادشاہِ انس و جاں اے فاتحِ دوراں
رہے گی تاجداری آپ کی عقبی میں بھی قائم
سلام اے خیرِ خلق اے آب و تابِ عالمِ امکاں
سلامی آپ کے دربار میں ہے خلق کو لازم
سلام اے رحمتِ کون و مکاں اے گلشنِ احساں
بہارِ فیض کے در یوزہ گر ہیں سب کے سب موسم
سلام اے مونیں تائب مرے ہر درد کے درماں
کھلائے پھولِ دشتِ دل میں ابرِ جود کی رمِ جہم

حفیظ تائب



تمہاری آہٹ سے ذہن جاگے ، نگاہ جائے نہ تم سے آگے
ہیں ختم ساری حدود تم ، سلام تم پر درود تم پر
تمہارا جلوہ خمیر آدم ، تم آسمان و زمین کے سنگم
تمہاری آمد کمال ایزد ، تمہارے اندر تمام عالم
تمہاری ممنون ہر گھڑی ہے ، ابد کو گھیرے ہوئے کھڑی ہے
عمارت ہست و بود تم پر ، سلام تم پر درود تم پر
خدا کے اظہار کی زباں تم ، ہمارے اور اُس کے درمیان تم
خدا کو پیاری ادا تمہاری ، چہاں جہاں وہ وہاں وہاں تم
ہر ایک تخلیق کی بنا ہو ، تم اس حقیقت کا آئینہ ہو
کھلا در ہر شہود تم پر ، سلام تم پر درود تم پر
چلی تھیں دل سے بول لے کر ، دعائیں لوٹی ہیں پھول لے کر
میں حشر تک کا رئیس ٹھہرا ، خدا سے عشق رسول لے کر
خطاؤں کو رحمتیں نوازیں ، نثار تم پر مری نمازیں
فدا قیام و سجود تم پر ، سلام تم پر درود تم پر

مظفر وارثی



مصطفیٰ نور یزداں پہ لاکھوں سلام
مجتبیٰ جانِ ایماں پہ لاکھوں سلام
دونوں عالم کے سلطان پہ لاکھوں سلام
رونقِ بزمِ امکاں پہ لاکھوں سلام
جن کی خاطر بنائے ہیں کون و مکاں
ایسے محبوبِ ذیشاں پہ لاکھوں سلام
جن کے جلوؤں سے روشن ہے دونوں جہاں
ایسے خورشیدِ تاباں پہ لاکھوں سلام
جن کے روضے پہ ہے تابشوں کا نزول
ایسے پُر نور سلطان پہ لاکھوں سلام
پیارے صدیق و فاروق و عثمان علی
چاروں اصحابِ ذیشاں پہ لاکھوں سلام
اہل بیتِ نبوت پہ لاکھوں درود
جانِ شاہِ شہیداں پہ لاکھوں سلام
پیش کرتا ہے صابر بھی صبح و مساء
مصطفیٰ نور یزداں پہ لاکھوں سلام

صابر براری قادری ضیائی



اللہ سبحانہ و تعالیٰ

حضور انور ﷺ حبیب ﷺ اور ﷺ ہزاروں لاکھوں سلام تم ﷺ پر
ہمارے آقا ﷺ کے ہزاروں بیرونی ﷺ ہزاروں لاکھوں سلام تم ﷺ پر
نبی مرسل ﷺ ہزاروں آئے سب ہی نے پیغام حق سنائے
ہو نہ کوئی تمہارا ﷺ ہمسرا، ہزاروں لاکھوں سلام تم ﷺ پر
ہو سب ﷺ افضل ﷺ سے اعلیٰ ہو سب سے بالا ہو سب سے والا
ہو سب سے بہتر، ہو سب سے برتر، ہزاروں لاکھوں سلام تم ﷺ پر
ہو قبلہ دین ہو کعبہ جاں، دم سلامی ہے سب کا ایماں
حضور ﷺ ہیں دو جہاں کے رہبر، ہزاروں لاکھوں سلام تم ﷺ پر
ہو تم ﷺ ہی مخلصانہ و بخت ہو تم ﷺ ہی شاہا خدا کی رحمت
قسیم کوثر ﷺ، شفیق محشر ﷺ، ہزاروں لاکھوں سلام تم ﷺ پر
کیا قمر شوق جناب تم ﷺ نے پلٹ دیا آفتاب تم نے
عمیاں ہیں سب پر تمہارے ﷺ جوہر، ہزاروں لاکھوں سلام تم ﷺ پر
حضور ﷺ صابر کی ہے تمنا کہ دیکھے سرکار ﷺ کا مدینہ
کہے سولہ روزہ سر جھکا کر ہزاروں لاکھوں سلام تم ﷺ پر

صابر براری

رہبر دین



ہنر گنبد کے کینے تجھ پر سلام
 فرش پر گزروں نشین تجھ پر سلام
 حسن قدرت کے کینے تجھ پر سلام
 شاہکار آخریں تجھ پر سلام
 اے پرے علم و یقین تجھ پر سلام
 میری دنیا میرے دین تجھ پر سلام
 قدسیوں کی خلوتوں کی گفتگو
 اے دعائے مرسلین تجھ پر سلام
 عارفوں کی بزم کے روشن چراغ
 سلفے ہرگز، سائیں، تجھ پر سلام
 صادق ہر عہد تجھ پر سلام
 ہر زمانے کے امین تجھ پر سلام
 اے عربوں کی متاع کے بے جا
 دم و الفیٹ کے کینے تجھ پر سلام
 بھیجا ہے یہ نصیحت کم ہوش
 اے متاع بہترین تجھ پر سلام

صبا متمر اووی



مصطفیٰ ، مصطفیٰ ، اجتبیٰ ، مجتبیٰ
سید المرسلین خاتم الانبیا
اس کی عظمت کا قرآن مدحت سرا
ایسے ممدوح داور پہ لاکھوں سلام
شافعِ روزِ محشر پہ لاکھوں سلام
وہ مجسمِ عطا ، وہ سراپا کرم
جس کی کملی کا سایہ عرب تا عجم
جس کی نسبت سے ٹھہریں گدا محترم
ایسے خدام پرور پہ لاکھوں سلام
شافعِ روزِ محشر پہ لاکھوں سلام
وہ محمد ، وہ یسین وہ ماہِ عرب
وہ غدیر و بشیر و مبشر لقب
فخر انساب کونین جس کا نسب
ایسے ہادی پہ ، رہبر پہ لاکھوں سلام
شافعِ روزِ محشر پہ لاکھوں سلام
بعد رتِ علیٰ سب سے برتر ہے وہ
روشنی اور خوشبو کا محور ہے وہ
جلوۂ ذاتِ باری کا مظہر ہے وہ
اس جمالِ متور پہ لاکھوں سلام
شافعِ روزِ محشر پہ لاکھوں سلام

امید فار

اے پاسبانِ قصرِ حرمِ آپ ﷺ پر سلام
 اے رحمتِ تمام و اتمِ آپ ﷺ پر سلام
 اے دستِ جود و ابرِ کرمِ آپ ﷺ پر سلام
 اے شہدِ شہود و عدمِ آپ ﷺ پر سلام
 اے باعثِ وجودِ جہاںِ مصدرِ نمود
 اے رافت و رحیم و رؤف و سخا و جود
 اے محرمِ رموزِ نہاںِ آپ ﷺ پر درود
 اے پاسبانِ قصرِ حرمِ آپ ﷺ پر سلام
 اے زاہدانِ کون و مکاںِ سیدِ الانامِ ﷺ
 اے شہدِ شہود و عدمِ آپ ﷺ پر سلام
 پیغامبرِ رسولِ ﷺ نگہبانِ راہبر
 گفتارِ نرمِ لہجہِ رواںِ حرفِ معتبر
 دل میں دعائیںِ رشد و ہدایتِ زبانِ پر
 اے دستِ جود و ابرِ کرمِ آپ ﷺ پر سلام
 سب کر رہے ہیں درودِ درود و صلوة کا
 سب بھیجتے ہیں ہو کے بہمِ آپ ﷺ پر سلام
 اے پاسبانِ قصرِ حرمِ آپ ﷺ پر سلام
 اے رحمتِ تمام و اتمِ آپ ﷺ پر سلام

حنیفِ اسعدی



تاجدارِ دو جہاں محبوبِ یزداں السلام
یا محمد مصطفیٰ کونین کی جاں السلام
آپ پر صدقے مرے آقا دل و جاں السلام
آپ پر قربان میرے دین و ایماں السلام
آمنہ کے لال عبداللہ کے نورِ نظر
اے حلیمہ کے سکونِ دل کے ساماں السلام
السلام اے وجہ تسکینِ دو عالم السلام
السلام اے باعثِ توقیرِ انساں السلام
السلام اے رہبرِ کل پیشوائے مرسلاں
السلام اے گنج بخش فیضِ عرفاں السلام
آپ کی نسبت ہے میری زندگی کا حاصل
آپ کی الفت ہے میرا عینِ ایمان السلام
اے خدا کے نور اے شمسِ اضحیٰ بدالجمی
آپ کے دم سے دو عالم ہیں درخشاں السلام
اک سکندر ہی نہیں ہم سب ہیں محتاجِ کرم
یک نگاہِ لطف ہو سوئے غلاماں السلام

سکندر لکھنوی



صبا مدینے پہنچ کر سلام کہہ دینا
نہیں ہے کچھ خبر صبح و شام کہہ دینا
گزر رہی ہے جو دل پر تمام کہہ دینا
صبا مدینے پہنچ کر سلام کہہ دینا
وہ روضہ آنکھوں سے نزدیک شکل راز میں ہے
ہے جان موت کے قبضے میں دل حجاز میں ہے
صبا مدینے پہنچ کر سلام کہہ دینا
یہ عرض کرنا غمِ دل سے ہے پریشانی
ڈبوئے دیتی ہے اب آنسوؤں کی طغیانی
غرض فناء ہستی بہت ہے طولانی
تمام عمر کا قصہ تمام کہہ دینا
صبا مدینے پہنچ کر سلام کہہ دینا
بہارِ گلشنِ طیبہ کہاں ہے فرقت میں
ہے مضطرب دلِ محشر وہیں کی حسرت میں
ہیں اُس کے شام و سحر بس دیارِ حضرت میں
یہاں نہ صبح ہے کوئی نہ شام کہہ دینا
صبا مدینے پہنچ کر سلام کہہ دینا

محشر بدایونی



خیر البشر پر لاکھوں سلام
لاکھوں درود اور لاکھوں سلام
جن و ملائک تیرے غلام
سب سے سوا ہے تیرا مقام
یسین و طہ تیرے ہی نام
خیر البشر پر لاکھوں سلام
عرش بریں تک چرچا ترا
شمس و قمر ہیں صدقہ ترا
اے ماہِ کامل حُسنِ تمام
خیر البشر پر لاکھوں سلام
اے جانِ جانانِ جانِ جہاں
شاداں کے تم ہو شاہِ شہاں
نازاں کے ہم ہیں ادنیٰ غلام
خیر البشر پر لاکھوں سلام
تیری ثنا ہے میرا نصیب
قربانِ تجھ پر جانِ ادیب
تجھ پر تصدقِ عالمِ تمام
خیر البشر پر لاکھوں سلام

ادیب رائے پوری



شہ مدینہ سے میرا سلام کہہ دینا
جو لب تک آنہ سکا وہ پیام کہہ دینا
نسیم تیرا گزر ہو تو کوئے بطحا میں
فسانہ ہائے غم ناتمام کہہ دینا
بھلا چکی ہے مساوات کا سبق امت
اب ایک صف میں نہیں خاص و عام کہہ دینا
خدا پرستی کی دولت سے ہو گئے محروم
ہے زر پرستی کا قائم نظام کہہ دینا
نہیں ہے ذہنوں میں تفریق نیک و بد باقی
ہوئے ہیں ایک حلال و حرام کہہ دینا
کھلے ہیں چاروں طرف جھوٹ کے حسین بازار
صدائقوں کا نہیں احترام کہہ دینا
صفیں لپیٹ کے بیٹھے ہیں راہ دینا میں
نہیں نمازوں کا اب اہتمام کہہ دینا
بجھے پڑے ہیں دلوں میں چراغ ایمانی
بنے ہوئے ہیں ہوس کے غلام کہہ دینا

کلیم عثمانی



السلام اے بادشاہِ دو جہاں
السلام اے سرورِ کون و مکان
السلام اے چارہ سازِ بیکساں
السلام اے چارۂ دردِ نہاں
کنبدِ خضریٰ کے ساکنِ السلام
گلشنِ طیبہ کے ساکنِ السلام
السلام اے عالمِ امی لقب
السلام اے ماہِ تابانِ عرب
اے گنہگاروں کے والیِ السلام
اے سیدِ کاروں کے حامیِ السلام
السلام اے ہادیِ قلب و نظر
اے طیبِ دردِ دل و دردِ جگر
اے سرورِ قلبِ مومنِ السلام
سوز و سازِ روحِ مومنِ السلام
فوق کو الفقرِ فخری سے نواز
اے مرے آقا تو ہے بندہ نواز

فوقِ دہلوی



تو ہم سے بے راہ و کم عقیدہ
گناہ گاروں کا ذکر ہی کیا
کہ انبیاء ان ﷺ کے خیر مقدم کو
صف بہ صف ایستادہ ہوں گے
اور ان ﷺ کے لب پر درود ہوگا
سلام ہوگا
سلام ان ﷺ پر
درود ان ﷺ پر
فدا ہمارا و جو د ان ﷺ پر

سرشار صدیقی



یا رسول سلام علیک

صلوٰۃ اللہ علیک

دل ہوا چاک اور سینہ

یا شفیع المذنبینہ

یا رسول سلام علیک

دور ہو جائے یہ دوری

دیکھ لوں وہ شکل نوری

یا رسول سلام علیک

مہیٹ وحی سکینہ

مشک سے بہتر پینہ

یا رسول سلام علیک

درد ہجراں کی حکایت

کیجئے اللہ عنایت

یا رسول سلام علیک

یا نبی سلام علیک

یا حبیب سلام علیک

ہجر میں مشکل ہے جینا

تھام لو میرا سفینہ

یا نبی سلام علیک

کاش حاصل ہو حضوری

دل کی حسرت ہو یہ پوری

یا نبی سلام علیک

آپ سلطانِ مدینہ

نور سے معمور سینہ

یا نبی سلام علیک

کیا کرے بیدل شکایت

رنج و غم ہیں بے نہایت

یا نبی سلام علیک

عبدالباقی بیدل جیلپوری



ولائے خدا ہے ولائے نبی
ولائے نبی پر درود و سلام
ہمارے نبی رحمتِ عالمیں
ہمارے نبی پر درود و سلام
ضیائے نبی سے ہے روشن جہاں
ضیائے نبی پر درود و سلام
رضائے خدا ہے رضائے نبی
رضائے نبی پر درود و سلام
ولائے نبی ہے اساسِ نجات
ولائے نبی پر درود و سلام
ہو توفیق شوکت تو پڑھتا رہوں
پیارے نبی پر درود و سلام

شوکت الہ آبادی



سراپا تم رحمتِ خدا ہو درود تم پر ، سلام تم پر
امین ہو صادق ہو باصفا ہو درود تم پر ، سلام تم پر
تم ابتدا ہو تم انتہا ہو درود تم پر ، سلام تم پر
حضور تم شانِ کبریا ہو درود تم پر ، سلام تم پر
تسبی دو عالم کا مدعا ہو درود تم پر ، سلام تم پر
حبیبِ حق سید الوریٰ ہو درود تم پر ، سلام تم پر
پیامِ راحت ہو دل کشا ہو تسبی دعا ہو تسبی دوا ہے
تسبی کرم ہو تسبی عطا ہو درود تم پر ، سلام تم پر
فروغِ جلوہ ہو حق نما ہو جمالِ حق کا اک آئینہ ہو
ہزاروں پردوں میں رونما ہو درود تم پر ، سلام تم پر
تسبی تسلی بے نوا ہو تسبی غریبوں کا آسرا ہو
تسبی رسولوں کے پیشوا ہو درود تم پر ، سلام تم پر
قبول یا رب میری عطا ہو دینہی پہ جو سر جھکا ہو
تو لب پہ ستار کے صدا ہو درود تم پر ، سلام تم پر

ستاروارثی



الصلوة والسلام اے تاجدار انبیاء
الصلوة والسلام اے مظہر رب العلی
الصلوة والسلام اے مصطفیٰ صل علی
الصلوة والسلام اے شافعِ روزِ جزا
الصلوة والسلام اے سرورِ عالی مقام
الصلوة والسلام اے دین و دنیا کے امام
الصلوة والسلام اے رحمۃ اللعالمین
الصلوة والسلام اے حاصل دنیا و دین
الصلوة والسلام اے صادق الوعدہ امیں
الصلوة والسلام اے ظ لیسین و مبیں
الصلوة والسلام اے سجدہ گاہ عاشقان
الصلوة والسلام اے جانِ دلبراں
فرض پورا کر کے اب جاتے ہیں ہم واپس وطن
دور ہی رکھنا الہی ہم سے اب رنج و محن
بار بار آئیں یہاں اب ایسا کر دیجے جتن
ہم ہمیشہ ہی کریں محسوس دل میں یہ چھبین
اپنے خاور پر بھی کر لطف و کرم کی اک نظر
مشفقہ بیگم پہ بھی بار الہ اب رحم کر

خورشید خاور امر و ہوی



سرتاجِ انبیاء کو ہمارا سلام ہو
محبوبِ کبریا کو ہمارا سلام ہو
جس کی طلب ہے حاصلِ ایمانِ کائنات
اُس جانِ مدعا کو ہمارا سلام ہو
جس کی تجلیوں سے اُجالا دلوں میں ہے
اُس پرُضیا کو ہمارا سلام ہو
جس کا لرم ہے عام بغیر امتیاز کے
اُس حامیِ عطا کو ہمارا سلام ہو
جس نے لبِ رسول سے پائی ہیں عزتیں
اُس معتبرِ دعا کو ہمارا سلام ہو
جس کا لقب ہے رحمتِ عالم حبیبِ حق
اُس کی ادا ادا کو ہمارا سلام ہو
طوفان کی موج موج کو ساحل بنا دیا
عالم کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو
سرمایہٴ وقارِ دو عالم ہے جس کی ذات
اُس منظرِ خدا کو ہمارا سلام ہو

وقار صدیقی اجمیری



سُؤ ! کہ ساری ثناؤں کا ہے وقار ، درود
پڑھو ! کہ نعتِ نبی ﷺ کا ہے شاہکار ، درود
فضائے حُبِ نبی ﷺ کا حسین نکھار ، درود
جزائے عشقِ پیمبر کی ہے بہار ، درود
صفائے قلب کا اک دلنشین وظیفہ ہے
ہمارے جذبوں کو کرتا ہے تابدار ، درود
جمال و شان مقامِ محمد ﷺ عربی
شعاعِ رفعتِ گفتارِ کردگار ، درود
کرد میں اُن ﷺ کا تصور تو روشنی دیکھوں
سنوں جو اسمِ محمد ﷺ پڑھوں ہزار ، درود
سکونِ روح کو ملتا ہے ذہن کو راحت
ہے قلب و جاں کے لئے صورتِ قرار ، درود
درود اُن ﷺ پر پڑھا اور سعادتیں پائیں
ہٹا گیا مرے سینے سے سب غبار ، درود
یہ ہے تسلسلِ انوارِ آلِ ابراہیم
ازل کے حسن کو دیتا ہے اعتبار ، درود

خاطرِ غزنوی



احمدِ مجتبیٰ پر درود و سلام
شاہِ ارض و سما پر درود و سلام
خاتمِ الانبیاء پر درود و سلام
بھیجئے مصطفیٰ پر درود و سلام
روح و صدق و صفا پر درود و سلام
خیر و حسنِ عطا پر درود و سلام
روح و صدق و صفا پر درود و سلام
خیر و حسنِ عطا پر درود و سلام
رحمتِ کبریاء پر درود و سلام
شاہکارِ خدا پر درود و سلام
مرکزِ حسن و لطف و عطا و کرم
شہرِ جود و سخا پر درود و سلام
ان کے نقشِ قدم منزلِ آگہی
ان کی ہر ہر ادا پر درود و سلام
ہم پہ لازم ہے خالد کہ بھیجیں سدا
نورِ غارِ حرا پر درود و سلام

خالد شفیق



سلام آئینہ حق نما سلام علیک
فروغ انجمن دوسرا سلام علیک
انیس خستہ دلاں شافع گنہگاروں
جہان رحمت و لطف و عطا سلام علیک
زفرق تا بقدم نور آفرید خدا
عبارت است ز زلف دو تا سلام علیک
چوں دید تاج شفاعت نہادہ در محشر
بحیرت اند ہمہ انبیا سلام علیک
چوں حرف راز شنیدی علمت فرمودی
چہ رمز ہاست ترا با خدا سلام علیک
نگاہ گن کہ ثنا خوان آل تو اعظم
بر آستان تو آمد شہا سلام علیک

محمد اعظم پشتی



یا رسول اللہ سلام علیک
یا حبیب اللہ سلام علیک
خلق کے پیشوا ، رہبر رہبر
اے حبیب خدا ، رحمتِ دو جہاں
پار لگ جائیں امت کی یہ کشتیاں
اے حبیب خدا رحمتِ دو جہاں
یا رسول اللہ سلام علیک
یا حبیب اللہ سلام علیک
ہم گدا آپ شاہِ زماں
اے حبیب خدا رحمتِ دو جہاں
آپ کے در پہ لائے ہیں کسکول جاں
اے حبیب خدا ، رحمتِ دو جہاں
یا رسول اللہ سلام علیک
یا حبیب اللہ سلام علیک
ہم پہ چشمِ کرم آپ فرمائیے
اپنے حیرت کو ڈیوڑھی پہ بلوائیے
بحسنِ مفلساں ، حامی بے کساں
اے حبیب خدا ، رحمتِ دو جہاں
یا رسول اللہ سلام علیک
یا حبیب اللہ سلام علیک

حیرت الہ آبادی



السلام اے سرورِ سلطانِ عالم السلام
السلام اے نور اے حُسنِ مجسم السلام
السلام اے رحمۃ اللعالمین محبوبِ رب
السلام اے شافعِ عصیانِ عالم السلام
السلام اے خرقہ پوشِ فقرِ سلطانِ جہاں
السلام اے دستگیرِ شدتِ غم السلام
السلام اے صاحبِ معراجِ نورِ عرش و فرش
السلام اے صاحبِ اخلاقِ اعظم السلام
ہم بھی ہیں محتاجِ اکِ چشمِ عنایت کے لیے
السلام اے بیکسوں کے غم کے مرہم السلام
ہم بھی ہیں بیتابِ دردِ ہجر سے صبح و مسا
السلام اے مالک و مختارِ عالم السلام
لعلِ گم گشتہ مرا واپس مجھے دلوائے
حضرتِ یعقوب کے غمِ خوار و ہندم السلام
مشغلہ رننا کو اب اس کے سوا کیا چاہیے
لب پہ ہو وصلِ علیٰ دل میں ہو ہر دم السلام

رعنا کبر آبادی



یا حبیبی ﷺ سلام سیدی ﷺ السلام
یا حبیبی ﷺ سلام سیدی ﷺ السلام
آپ ﷺ پر ہو گئی ہے نبوت تمام
آپ ﷺ نبیوں رسولوں کے آقا امام
آپ ﷺ پر حق نے نازل کیا ہے کلام
ہے لبوں پہ ہمارے یہی صبح و شام
یا حبیبی ﷺ سلام سیدی ﷺ السلام
آپ ﷺ آقا ہمارے ہیں ہم ہیں غلام
آپ ﷺ کونین میں واجب الاحترام
آپ ﷺ ہیں آہنہ بی کے ماہ تمام
آپ ﷺ کے واسطے ہیں درود و سلام
یا حبیبی ﷺ سلام سیدی ﷺ السلام
آپ ﷺ کی شان اقدس میں ہے گل اتی
آپ ﷺ کی جو عطا ہے عطائے خدا
آپ ﷺ سے بھیک پاتے ہیں شاہ و گدا
آپ ﷺ مختار کا مدعا ، آسرا
یا حبیبی ﷺ سلام سیدی ﷺ السلام
یا حبیبی ﷺ سلام سیدی ﷺ السلام

مختار جمیری



اے حبیبِ ربِّ اکبر الصلوٰۃ و السلام
عظمتِ محراب و منبر الصلوٰۃ و السلام
ساقیِ تنیم و کوثر الصلوٰۃ و السلام
گم رہوں کے خضر و رہبر الصلوٰۃ و السلام
منزل ایقان کے محور الصلوٰۃ و السلام
مخزنِ حکمت کے گوہر الصلوٰۃ و السلام
ہو معین بے کساں مشکل کشا و مہرباں
حق نما و بندہ پرور الصلوٰۃ و السلام
مظہر نورِ خدا ہو حال امّ الکتاب
بعد خالق سب سے برتر الصلوٰۃ و السلام
لجا و ماوا ہمارے اے شفیع المذنبین
جان و دل قربان تم پر الصلوٰۃ و السلام
اک گل خوش رنگ ہو تم گلشن توحید کا
ہے پینہ مشک و عنبر الصلوٰۃ و السلام
ہو در اقدس پہ حاضر بندہ مسکینِ فدا
یا مالکِ کل بحر و بر الصلوٰۃ و السلام

ابوالطاہر فدا حسین فدّ



فخر آمد سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے برتر سب سے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مہر برجِ نبوت پہ لاکھوں سلام
صدرِ بزمِ رسالت پہ لاکھوں سلام
بوریا مسند و عرشِ زیرِ قدم
ایسے اوج ایسی رفعت پہ لاکھوں سلام
حشر میں عاصیوں کو جو دے گا پناہ
ایسے دامن کی وسعت پہ لاکھوں سلام

شیدائریلوی



سلام اُس ذاتِ اقدس پر، سلام اس فخرِ دوراں پر
ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکاں پر
سلام اس پر جو آیا رحمۃ للعالمیں بن کر
پیامِ دوست لے کر صادق الوعدہ امیں بن کر
سلام اس پر کہ جس نے بے زبانوں کو زباں بخشی
سلام اس پر کہ جس نے ناتوانوں کو تواں بخشی
سلام اس پر بنایا جس نے دیوانوں کو فرزانہ
مے حکمت کا چھلکایا جہاں میں جس نے پیانہ
بڑے چھوٹے میں جس نے اک اہت کی بنا ڈالی
زمانے سے تمیز بندہ و آقا مٹا ڈالی
سلام اس پر جو ہے آسودہ زیرِ گنبدِ خضرا
زمانہ آج بھی ہے جس کے در پر ناصیہ فرسا
سلام اس ذاتِ اقدس پر حیاتِ جاودانی کا
سلام آزاد کا آزاد کی رہیں بیانی کا

جگن ناتھ آزاد



سلام اُن پہ جو پیغمبرِ خدا بھی ہیں
دُرود اُن پہ جو محبوبِ کبریا بھی ہیں
سلام اُن پہ جو آقا ہیں ہم غلاموں کے
دُرود اُن پہ جو سرتاجِ انبیاء بھی ہیں
سلام ان پہ جنہیں فخر تھا فقیری پر
یتیم بھی تھے یتیموں کا آسرا بھی ہیں
سلام اُن پہ کہ جو اوّلِ خلائق ہیں
خدا و خلق کے مابین واسطہ بھی ہیں
سلام اُن پہ بشر و نذیر جن کا لقب
شفیعِ حشر بھی ہیں دافعِ ابلا بھی ہیں
بشر ہیں مثلِ بشر اس کے باوجود جمیل
ہماری فہم و فراست سے ماورا بھی ہیں

جمیل نقوی



کر رہا ہے بہ انکسار سلام
اپنے آقا ﷺ کو خاکسار سلام
اے حبیبِ خدا شہِ عالم ﷺ
صاحبِ عِز و اقتدار ﷺ سلام
رحمتِ عالمین آپ ہوئے
کائناتوں کے تاجدار ﷺ سلام
ان کی رفعت کا کیا ہو اندازہ
بھیجے جب اُن کو کردگار سلام
اہلِ ایمان درود پڑھتے ہیں
یا پھر اُن کا ہوا شعار سلام
رب نے چاہا تو حشر کو ہوگا
باعثِ عزت و وقار سلام
پائے گا تُو قرار کی دولت
پیش کر قلبِ بے قرار سلام
سرزمینِ حجاز کو محمود
کرتی ہے چشمِ اعتبار سلام

راجا رشید محمود



حضور شاہِ رسولاں سلام کہتے ہیں
تم ہی کو سارے مسلمان سلام کہتے ہیں
اسیرِ گردشِ دوراں سلام کہتے ہیں
شکستہ حال پریشاں سلام کہتے ہیں
سلام کہتی ہیں محروم دید کی نظریں
دلِ غریب کے ارماں سلام کہتے ہیں
نظر میں لے کے بدینے کی جلوہ سامانی
تمہارے کشتہ ہواں سلام کہتے ہیں
لبوں پہ آہِ خلشِ دل میں رخ پہ گردِ ملال
دیارِ ہند کے انساں سلام کہتے ہیں
ستمِ رسیدوں پہ کیجئے نگاہِ لطف و کرم
حضور ﷺ امن کے خواہاں سلام کہتے ہیں
خیالِ مہر کی ندرت انہیں نصیب کہاں
ہزار یوں تو سخنداں سلام کہتے ہیں

مہرِ رولوی



سلام اُن ﷺ پر خدا کے بعد جو یکتا ہیں، اعلیٰ ہیں
سلام اُن ﷺ پر جو عظمت اور رفعت کا حوالہ ہیں
سلام اُن ﷺ پر جو محبوبِ خداوندِ جہاں بھی ہیں
سلام اُن ﷺ پر ہمارے جو، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں
سلام اُن ﷺ پر مکمل دین، رب نے جن پہ فرمایا
سلام اُن ﷺ پر جنہوں نے پھر اسے دنیا میں پھیلایا
سلام اُن ﷺ پر کہ جن کا بوریا بستر چٹائی تھا
سلام اُن ﷺ پر سرِ عرشِ بریں، جن کی رسائی تھی
سلام اُن ﷺ پر جو ٹکڑے چاند کے، انگلی سے فرمائیں
سلام اُن ﷺ پر کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹائیں
سلام اُن ﷺ پر جنہوں نے دشمنوں پر پھول برسائے
سلام اُن ﷺ پر زباں پر جو کبھی شکوہ نہیں لائے
سلام اُن ﷺ پر جنہوں نے آکے سارے بتکدے ڈھائے
سلام اُن ﷺ پر جنہوں نے زندگی کے راز سمجھائے
سلام اُن ﷺ پر کہ جو مسرور کے ملجا ہیں ماوا ہیں
سلام اُن ﷺ پر کہ جو مسرور کے مولا ہیں آقا ہیں

مسرور کیفی



رسول برحق حبیب داور ، درود تم پر سلام تم پر
بہار دنیا وقارِ محشر ، درود تم پر سلام تم پر
تمہاری خلوت تمہاری محفل تمہارا رتبہ تمہاری منزل
ہمارے وہم و گماں سے بڑھ کر درود تم پر سلام تم پر
تمہی ہو ذات خدا کے مظہر درود تم پر سلام تم پر
تمہی ہو ذات کون و مکاں کا حاصل تمہی یہ قرآن ہوا ہے نازل
تمہارے جلوے نظر نظر ہیں کہ راہیں ایماں کی معتبر ہیں
تمہی ہو منزل تمہی ہو رہبر درود تم پر سلام تم پر
تمہاری رحمت حصار عالم تمہاری ہستی قرارِ عالم
تمہی ہو مرکز تمہی ہو محور درود تم پر سلام تم پر
یہ عالم عزم و استقامت یہ منزل صبر یہ قناعت
شہہ ام اور شکم پہ پتھر درود تم پر سلام تم پر
خدائی ہو جائے ختم ساری مگر رہے گی ثناء تمہاری
کہ بھیجتا ہے خدائے برتر درود تم پر سلام تم پر
یہی تو انداز ہے تمہارا یہی تو اعجاز ہے تمہارا
ابھی زمیں پر ابھی فلک پر درود تم پر سلام تم پر
اعجازِ رحمانی



شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام
بدر الدجیٰ پر لاکھوں سلام
اعلیٰ سے اعلیٰ تیرا مقام
سب انبیاء کا تو ہے امام
کل اولیا ہیں تیرے غلام
شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام
ہے حکمرانی کس شان سے
قائم ہے تیرے فیضان سے
دنیا و دین کا سارا نظام
شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام
اتنا کرم تو فرمائیے
روضے پہ سب کو بلوائیے
حاضر یہاں ہیں جتنے غلام
شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام
انجم کے آقا انجم ہی کیا
تیرے بھکاری تیرے گدا
سارے خواص اور سارے عوام
شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام

قمرالدین احمد قمر انجم



رُت گد گدا رہی ہے درود و سلام کی
ڈالی سجا رہی ہے درود و سلام کی
آؤ صمیم قلب سے صل علی کہیں
محفل بلا رہی ہے درود و سلام کی
ہے مومنوں کے واسطے رحمت کا سائباں
بدلی سی چھا رہی ہے درود و سلام کی
محسوس ہو رہا ہے کہ سرکار ﷺ آئے ہیں
خوشبو بتا رہی ہے درود و سلام کی
عشقِ نبی ﷺ میں، جھوم کے مخلوقِ کائنات
چھاؤں میں آرہی ہے درود و سلام کی
جی چاہتا ہے وہ لبِ اعجازِ چوم لوں
جن پر ثنا رہی ہے درود و سلام کی
حُبِ نبی ﷺ میں ڈوب کے ہر دل کی آرزو
شمعیں جلا رہی ہے درود و سلام کی
برسیں کہاں پہ رحمتیں اقبال دیکھئے
سوغات جا رہی ہے درود و سلام کی

محمد اقبال عالم



ترے در پہ جبیں فرسا عرب والے عجم والے
ترے محتاج رحمت ہیں بھی دیر و حرم والے
تری چوکھٹ پہ کاسہ لیں اجلال و حشم والے
ترستے ہیں غلامی کو تری طبل و علم والے

لیے کاسہ گدائی کا کھڑے ہیں جامِ حرم والے

سلام اے رَحْمَتُهُ لِّلْعَالَمِينَ ﷺ لطفِ اتمِ والے

ترے دم سے فروزاں ہے ابھی تک شمعِ سینائی
تری تصدیق سے داؤدؑ کی بھتی ہے شہنائی
ترے اعجاز سے زندہ ہے اعجازِ مسیحائی
تری رحمت سے کل نبیوں ﷺ نے عمر جاوداں پائی

نہ کیوں فخرِ زسل ہوتا تو اے خیرِ اُممِ والے

سلام اے رَحْمَتُهُ لِّلْعَالَمِينَ ﷺ لطفِ اتمِ والے

جفائیں سہ کہ دشمن کے لیے تو نے دعا کی ہے
منافق کو کفن میں اپنی چادر تک عطا کی ہے
تری رحمت تو اپنے کیا ہیں غیہوں پر رہا کی ہے
کریمی کی مرے آقا ﷺ جب اتنی انتہا کی ہے

مبارک بھی کرم کا منتظر ہے اے کرمِ والے

سلام اے رَحْمَتُهُ لِّلْعَالَمِينَ ﷺ لطفِ اتمِ والے

مبارکِ مونسیرنی



اے حبیبِ ربِّ جاںِ الصلوٰۃ و السلام
اے شہنشاہِ رسولاںِ الصلوٰۃ و السلام
حشر میں رحمتِ بداماںِ الصلوٰۃ و السلام
پردہ پوشِ فردِ عصیاںِ الصلوٰۃ و السلام
پیشوائے دین و ایماںِ الصلوٰۃ و السلام
مصلحِ اخلاقِ انساںِ الصلوٰۃ و السلام
منظیرِ آیاتِ قرآنِ الصلوٰۃ و السلام
چشمہٴ انوارِ ایماںِ الصلوٰۃ و السلام
السلام اے گنٹ کنڑا مخفیاً رازِ نہاں
السلام اے سرِ وحدت ، بر ملا حق کے نشاں
السلام اے رحمت اللعالمیں لاکھوں سلام
السلام اے اولین و آخرین لاکھوں سلام
السلام اے غمگسارِ مذنبیں لاکھوں سلام
السلام اے خاتمِ کلِ مرسلین لاکھوں سلام
السلام اے مالکِ دنیا و دین لاکھوں سلام
السلام اے مظہرِ حقِ آفرین لاکھوں سلام
السلام اے ہمدِ روحِ الامیں لاکھوں سلام
السلام اے برسرِ عرشِ بریں لاکھوں سلام
السلام اے ذاتِ اقدسِ صاحبِ معجزِ بیاں
مدح میں رطب اللساںِ آیاتِ قرآن کی زباں

شیداجیلپوری



دو جگ کے رہنما کو ہمارا سلام ہے
ہر درد کی دوا کو ہمارا سلام ہے
عہدِ طفولیت سے مقامِ وصال تک
آقا کی ہر ادا کو ہمارا سلام ہے
کل امتیں ہیں جس کی شفاعت کی منتظر
نبیوں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہے
رحمت ہیں آپ ﷺ سارے جہانوں کے واسطے
آئینہ خدا کو ہمارا سلام ہے
کونین جس کے واسطے تخلیق کی گئی
قدرت کے مدعا کو ہمارا سلام ہے
اسرار جس کی ذات میں ہیں کل جہان کے
اس محرم خدا کو ہمارا سلام ہے
ارض و سما کے راز ہیں جس کی نگاہ میں
اس غیب آشنا کو ہمارا سلام ہے
ہم جیسے عاصیوں کی شفاعت کو اے نظر
رحمت کی انتہا کو ہمارا سلام ہے

جمیل نظر



صاحب معراجِ رفعت الصلوة و السلام
واقف اسرارِ قدرت الصلوة و السلام
منبعِ زبد و عبادت الصلوة و السلام
روکش گلزارِ وحدت الصلوة و السلام
سلسبیل و کوثر و تسنیم کے مالک ہیں آپ ﷺ
اے امیرِ باغِ جنت الصلوة و السلام
آپ ﷺ ہی کے نور سے روشن ہے بزمِ کائنات
آپ خورشیدِ حقیقت الصلوة و السلام
آپ ﷺ کا گلشن ہمیشہ سے بہارِ آثار ہے
مالکِ باغِ نبوت الصلوة و السلام
پل رہا ہے آپ ﷺ ہی کے خوانِ نعمت سے جہاں
مصدرِ جود و سخاوت الصلوة و السلام
حادثاتِ دہر نے گھیرا ہے شاہد کو بہت
مخزنِ لطف و عنایت الصلوة و السلام

شاہد الوری



محبوبِ کبریا سے میرا سلام کہنا
سلطانِ انبیاء سے میرا سلام کہنا
تجھ پر خدا کی رحمت اے عازمِ مدینہ
نورِ محمدی سے روشن ہو تیرا سینہ
جب ساحلِ عرب پر پہنچے تیرا سفینہ
اس وقت سر جھکا کر اللہ باقرینہ
ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا
موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا
محبوبِ کبریا ﷺ سے میرا سلام کہنا
سلطانِ انبیاء ﷺ سے میرا سلام کہنا
روضے کی جالیوں کے جس دم قریب جانا
رو رو کے حالِ مسلم سرکار کو سناٹا
بے ساختہ مچلنا جوشِ جنوں دکھانا
سینے میں بھی بسانا آنکھوں میں بھی بسانا
پھر نورِ حق نما سے میرا سلام کہنا
سلطانِ انبیاء ﷺ سے میرا سلام کہنا

ع، ہں مسلم



بزمِ فطرت کے شاہکار سلام
صاحبِ حشمت و وقار سلام
راحتِ جانِ بے قرار سلام
مونسِ چشمِ اشکبار سلام
دین و دنیا کے راہبر تم پر
بے عدد اور بیشمار سلام
سرورِ دو جہاں نگاہِ کرم
عرض کرتے ہیں دلفگار سلام
شاہِ جود و سخا صاحبِ کرم
وجہِ صد ناز و افتخار سلام
فخرِ کونین ، رحمتِ عالم
پشمہ فیضِ کردگار سلام
ناخدائے سفینہ امت
مرہمِ سینہِ وفکار سلام

تسیم بستوی



اے مدینے کے مکین تجھ پر سلام
رحمتہ للعالمین تجھ پر سلام
ہادی دنیا و دین تجھ پر سلام
تو ہے ختم المرسلین تجھ پر سلام
اے دل و جان کے مکین تجھ پر سلام
اے شفع مذہبیں تجھ پر سلام
اے نگارِ دل نشین تجھ پر سلام
باغِ ہستی کے امین تجھ پر سلام
اے دعائے طالبین تجھ پر سلام
مددِ دعائے سالکین تجھ پر سلام

قیوم احسان



عزیزو آؤ پڑھیں ہم درود اور سلام
رسول پاک پہ پیہم درود اور سلام
اب اور نذر کے قابل ہمارے پاس ہے کیا
قبول اے شہ عالم درود اور سلام
وہی تو عاصیوں کو بخشوانے والے ہیں
بنام شافع عالم درود اور سلام
خدا نے اتنا مقرب، کسے بنایا ہے
بے زینت لب آہم درود اور سلام
نفس اگر انجان ہم درود پڑھیں
وہ ہوں گے پھر بھی بہت کم درود اور سلام

ثاقب انجان



تلاشِ وجہ سکون دوام ہو جائے
حیاتِ وقفِ درود و سلام ہو جائے
نبی اور آلِ نبی ﷺ پر سلام ہو جائے
بحدِ شوق و بحدِ احترام ہو جائے
تمام عمر میں نعت و سلام لکھتا رہوں
تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے
میں ایسے ام محمد ﷺ لکھوں کہ اس کے بعد
یہ میرا صفحہ ہستی تمام ہو جائے
شعاعِ نور نگاہِ نبی ﷺ کے پڑتے ہی
چراغِ جاں میرا ماہ تمام ہو جائے
درِ حضور ﷺ پہ جا جا کے سب پڑھیں اخلر
مرا سلام بھی مقبول عام ہو جائے

محمد حنیف اخلر



السلام افضل الانبياء السلام
السلام اے حبیبِ خدا السلام
السلام اے نبی کریم السلام
السلام اے دلوں میں مقیم السلام
السلام اے جمیل الشیم السلام
السلام اے سحابِ کرم السلام
السلام اے شفیع الانام السلام
السلام اے رفیع المقام السلام
السلام اے دوائے ام السلام
السلام اے مداوائے غم السلام
السلام اے خدا کے رسول السلام
ہدیہ دل ہو آقا قبول السلام
السلام الصلوٰۃ الصلوٰۃ السلام
تیرا نام حسیں ہو لبوں پہ مدام

خلیق قریشی



السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام اے نازش چرخ و زمیں
السلام اے رہنمائے عالمیں ﷺ السلام اے تاجدارِ مرسلین ﷺ

السلام اے رحمتہ للعالمین ﷺ

اے حبیبِ حق شفیعِ المذنبین ﷺ

السلام اے قدرتِ حق کی دلیل زندہ تصویر تمنائے خلیل

السلام اے میزبانِ جبرئیل اے امینِ وحی خلاقِ جلیل

السلام اے رحمتہ للعالمین ﷺ

اے حبیبِ حق شفیعِ المذنبین ﷺ

السلام اے غلبہِ غارِ حرا اے خطیبِ منبرِ کوہِ صفا

السلام اے رہبرِ راہِ ہدیٰ اے امامِ اجتماعِ انبیاء

السلام اے رحمتہ للعالمین ﷺ

اے حبیبِ حق شفیعِ المذنبین ﷺ

لیجئے ہم نابکاروں کا سلام بے وفا، بے اعتباروں کا سلام

بے عمل غفلت شعاروں کا سلام شش جہت کے بے وقاروں کا سلام

السلام اے رحمتہ للعالمین ﷺ

اے حبیبِ حق شفیعِ المذنبین ﷺ

ڈاکٹر رئیس احمد نعمانی



یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام
گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام
والہانہ جو طوافِ روضہ اقدس کرے
مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام
جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا
تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام
مانگتے ہیں جو وہاں شاہ و گدا بے امتیاز
دل کی ہر دھڑکن میں شامل ان دعاؤں کو سلام
اے ظہوری خوش نصیبی اے گئی جن کو حجاز
ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام
در پہ رہنے والے خاصوں اور عاموں کو سلام
یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام
کعبہ کعبہ کے خوش منظر نظاروں پر درود
مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام
جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب ترے دربار میں
پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام

محمد علی ظہوری



اے عروجِ عبدیت اے فخرِ انساں السلام
نازِ کون و مکاں ، محبوبِ یزداں السلام
تیری عظمت پر ہے شاہد دو کماں کا فاصلہ
السلام اے نورِ حق ، معراجِ انساں السلام
ہے ترا احساں ، دیا ہے تو نے پیغامِ بقا
اے امامِ الانبیاء ، شاہِ رسولاں السلام
تو نے بخشی ہے خرد کو اک نئی تابندگی
السلام اے معنیِ ایقان و ایماں السلام
سینہٴ ظلمت کو تیغِ نور سے شق کر دیا
بزمِ امکاں میں ہے تو شمعِ فروزاں السلام
اے زہے قسمتِ ملی تقویٰ کو تیری بارگاہ
السلام اے قبلہٴ شوقِ فراواں السلام

نعیم تقویٰ



بصد عقیدت مدینے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
نگاہ کونین کے اُجالے درود تجھ پر سلام تجھ پر
صبا یہ کہنا درِ نبی ﷺ پر تڑپ رہے ہیں غلام تیرے
انہیں بھی در پر کبھی بلا لے درود تجھ پر سلام تجھ پر
ہر اک گھڑی حشر کی گھڑی ہے کہ دھوپ حالات کی کڑی ہے
ردا میں اپنی ہمیں چھپا لے درود تجھ پر سلام تجھ پر
میں ناتواں اور یہ بارِ عصیاں میں خشک پتہ یہ تیز طوفاں
تری توجہ مجھے سنبھالے درود تجھ پر سلام تجھ پر
ہمارے جذبے قبول کر کے شعورِ انساں کو معتبر کر
خدا کے بندے خدائی والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
بہ نام تخلیقِ شعر و نغمہ ترے کرم نے عطا کئے ہیں
مرے قلم کو ترے حوالے درود تجھ پر سلام تجھ پر
زباں پہ مہرین لبوں پہ پہرے رہِ وفا میں صدا رہیں گے
مگر دلوں پر لگیں نہ تالے درود تجھ پر سلام تجھ پر
سعید خستہ و دل شکستہ ازل سے تیرا غلام ٹھہرا
ہجومِ غم سے اسے بچالے درود تجھ پر سلام تجھ پر

سعید وارثی



سلام اوج شرف کے بدر کامل ، یارسول اللہ
سلام اے ناصر و حلالِ مشکل ، یارسول اللہ
سلام اے رحمتِ داور ، سلام اے مالکِ کوثر
سلام اے ہادی و رہبر ، سلام اے شافعِ محشر
سلام اے وسعت کون و مکاں میں آیۂ رحمت
سلام اے عرصہ روزِ جزا میں سایۂ رحمت
سلام اے منبعِ احساں ، سلام اے مرجعِ دوراں
سلام اے مقصدِ امکاں ، سلام اے صاحبِ قرآن
سلام اے مخیرِ صادق ، سلام اے سیدِ بطحا
سلام اے مصحفِ ناطق ، سلام اے برزخِ کبریٰ
سلام اے وارثِ امت ، سلام اے حارسِ ملت
سلام اے دو جہاں کے چارہ ساز و مونسِ ملت
سلام اے شعلۂ سینا ، سلام اے جلوۂ فاراں
سلام اے رونقِ امکاں ، فرازِ عرش کے مہماں
مرے آقا ! رشیدِ وارثی پہ رحم فرمائیں
حریمِ گنبدِ خضریٰ کے جلوے اس کو دکھلائیں

رشیدوارثی



نورِ کون و مکان سلام علیک

حسنِ بزمِ جہاں سلام علیک

وائی ہر زماں سلام علیک ناظمِ دو جہاں سلام علیک

آپ کی ذات ہادیٰ کل ہے رہبرِ کمالاں سلام علیک

بزمِ امکاں بھی ہے تمہارے لئے وجہِ کون و مکان سلام علیک

دستِ قدرت میں نبضِ ہر عالم سب کی روح رواں سلام علیک

کشتِ توحید ہوگئی شاداب ابرِ گوہرِ فشاں سلام علیک

برکتِ لا زوال آپ کی ذات، نعمتِ جاوداں سلام علیک

جانِ ارض و سما ہے جاں تیرگی روح کون مکان سلام علیک

پھیلی خلقِ عظیم کی خوشبو مہکا ہر گلستاں سلام علیک

زینتِ دو جہاں رخِ زیبا رونق ہر زماں سلام علیک

نازشِ مومناں تری ہستی فخرِ ہر انس و جاں سلام علیک

بے حساب آپ کے ہیں لطف و کرم رحمتِ بیکراں سلام علیک

کاوشِ بے نوا کی جانب سے

لیجئے مہرباں سلام علیک

فیاض احمد کاوش و ارثی



السلام اے روح عالم جان وحدت السلام
السلام آئینہ روئے مشیت السلام
السلام اے رہبر راہ شریعت السلام
السلام مشعل نور ہدایت السلام
السلام اے شاہد بزم رسالت السلام
السلام اے نور حق اے رحمت کون و مکاں
السلام اے داروئے درد غریبان جہاں
السلام اے چارہ ساز و دستگیر بے کساں
السلام اے شافع روز قیامت السلام
السلام اے ہمد و ہمدرد امت السلام

فہیم ردولوی



السلام اے ہادی برحق محمد مصطفیٰ ﷺ
السلام اے صلح گل محبوب رب کبریا
السلام اے کائنات گل کے رہبر رہنما
السلام اے فخر موجودات ، فخر انبیاء
السلام اے حامد و محمود و یاسین و امین
السلام اے عادل و ظہ شفیق المذنبین
السلام اے حافظ و واعظ ، منیر و مضری
السلام اے قاسم و منصور و ختم المرسلین

جبران الصاری



خدا کو ہے پیارا محمد کا نام
علیہ الصلوٰۃ علیہ السلام
محمد ﷺ نبی شاہِ اعلیٰ مقام
علیہ الصلوٰۃ علیہ السلام
محمد ﷺ مرا وردِ دل ہے مدام
علیہ الصلوٰۃ علیہ السلام
محمد ﷺ پہ صلواتِ رب ہو مدام
علیہ الصلوٰۃ علیہ السلام
محمد ﷺ پہ بھیجو درود و سلام
علیہ الصلوٰۃ علیہ السلام
محمد ﷺ ہے سالارِ بیتِ الحرام
علیہ الصلوٰۃ علیہ السلام
محمد ﷺ کی الفت کا پتیا ہوں جام
علیہ الصلوٰۃ علیہ السلام
محمد ﷺ نذیر و بشیرِ تمام
علیہ الصلوٰۃ علیہ السلام

نذیر



یا نبی سلام علیک
یا حبیب سلام علیک
آپ ہیں محبوب عالم
آپ پر قربان ہیں ہم
یا نبی سلام علیک
یا حبیب سلام علیک
مرہم دل خستگان ہو
داروئے درد نہاں ہو
یا نبی سلام علیک
یا حبیب سلام علیک
اشرفی مسکین تمہارا
رہتا ہے تم سے سہارا
یا نبی سلام علیک
یا حبیب سلام علیک
یا رسول سلام علیک
صلوات اللہ علیک
مظہر رحمت مجسم
ورد رکھتے ہیں یہ ہر دم
یا رسول سلام علیک
صلوات اللہ علیک
چارۂ بیچارگان ہو
ہر مصیبت سے اماں ہو
یا رسول سلام علیک
صلوات اللہ علیک
کر کے دنیا سے کنار
لو خبر جلدی خدارا
یا رسول سلام علیک
صلوات اللہ علیک

اشرفی



پیغمبرِ خدا پہ صلوة و سلام ہو
محبوبِ کبریا پہ صلوة و سلام ہو
جس پر ہوا ہے ختمِ نبوت کا سلسلہ
اس مہرِ انبیاء پہ صلوة و سلام ہو
لایا وہ دینِ حق جو ہے اللہ کو پسند
امت کے رہ نما پہ صلوة و سلام ہو
طوفانِ جہل سے سلامت نکال لی
کشتی کے نا خدا پہ صلوة و سلام
آگے حضور پاک ﷺ سے جاتی نہیں نگاہ
نظروں کے منتہا پہ صلوة و سلام ہو
بھیجی گئی جو سارے جہانوں کے واسطے
اُس رحمتِ خدا پہ صلوة و سلام ہو
پاکیزگی حیات کو بخشی حضور ﷺ نے
آئینہ صفا پہ صلوة و سلام ہو
بھیجیں درود جس پہ خدا اور ملائکہ
اس ذاتِ خوش ادا پہ صلوة و سلام ہو

شفیق الدین شارق



بصد ادب اے نسیم صبح نبی سے میرا سلام کہنا

بلا لودر پر چھڑا لو غم سے بس اتنا میرا پیام کہنا

بصد ادب اے نسیم صبح نبی سے میرا سلام کہنا

در محمدیہ سر جھکا کر ستارے آنکھوں سے جھلملا کر

عقیدتوں کے دیئے جلا کر سلام صد احترام کہنا

بصد ادب اے نسیم صبح نبی سے میرا سلام کہنا

یہ کہنا اک بے کسی کا مارا فریب خوردہ و بے سہارا

گھرا ہے گرداب بحر غم میں بچا لو خیر الا نام کہنا

بصد ادب اے نسیم صبح نبی سے میرا سلام کہنا

سراج بھی ہیں منیر بھی ہیں وہ نور رب قدر بھی ہیں

جو عرض کرنا ادب سے کرنا جو کہنا با احترام کہنا

بصد ادب اے نسیم صبح نبی سے میرا سلام کہنا

چمن کی زینت اگلوں کی نکبت بہار عالم وقارِ انساں

ملا کسی کو نہ اب ملے گا جو آپ کا ہے مقام کہنا

بصد ادب اے نسیم صبح نبی سے میرا سلام کہنا

غریق عصیاں دریدہ دامن اسیر گیسو و چشم پر نم

سنجال لیجئے شریف کو ہے تمہارے در کا غلام کہنا

بصد ادب اے نسیم صبح نبی سے میرا سلام کہنا

• شریف امر وہوی



سلام اس ذات پر جس کی محبت عین ایماں ہے
سلام اس نور پر جس سے منور بزم امکاں ہے
سلام اس پر جو آیا رحمتہ للعالمین بن کر
امیر الانبیاء بن کر امام المرسلین بن کر
سلام اس پر شہادت دی گئی جس کی اذانوں میں
مچی اک دھوم جس کے نام کی ہفت آسمانوں میں
سلام اس شاہ پر "الفقر فخری" جس کا فرماں تھا
شہ کون و مکان ہو کر فقیری پر جو نازاں تھا
سلام اس پر کہ جس کو نور رب العالمین کہیے
سلام اس پر مکانِ قدس کا جس کو مکین کہئے
سلام اس پر جو آیا کارِ اصلاح جہاں لیکر
ہوا مبعوث جو پروانہ امن و امان لیکر
سلام اس پر مثایا جس نے دیوی دیوتاؤں کو
منور کر دیا توحید سے جس نے فضاؤں کو
سلام اس پر دلِ صد پارہ اپنا جس پہ قرباں ہے
فدا اے فخر جس کے نام اقدس پر مری جاں ہے

فخر الدین فخر گیاوی



سلام اُس ﷺ پر کہ جس نے پردہ ہائے راز اٹھائے ہیں
سلام اُس ﷺ پر، مشیت نے بھی جس کے ناز اٹھائے ہیں
سلام اُس ﷺ پر کہ منشاءِ الہی جس کی مرضی تھی
سلام اُس ﷺ پر کہ جس کی انگلیوں میں نبض ہستی تھی
سلام اُس ﷺ پر دلاسا غم کے ماروں کو جو دیتا تھا
سلام اُس ﷺ پر سہارا بے سہاروں کو جو دیتا تھا
سلام اُس ﷺ شمع پر جو گھر کے طوفانوں میں لہرائی
سلام اُس ﷺ مفلسی پر تاجداری سے جو ٹکرائی
سلام اُس ﷺ پر جو منزل خواہ و منزل آشنا بھی تھا
سلام اُس ﷺ پر جو خود رہبر بھی تھا اور رہنما بھی تھا
سلام اُس ﷺ پر کہ جس نے نخل ایماں کو نمو بخشی
سلام اُس ﷺ پر کہ جس نے ہم کو راہ جستجو بخشی
سلام اُس ﷺ کی عبادت کو جو راتوں میں نہ سوتا تھا
سلام اُس ﷺ پر کہ امت کے لیے دل جس کا روتا تھا
سلام اُس ﷺ پر اندھیروں سے ہمیں جس نے نکالا ہے
سلام اُس ﷺ پر کہ جس کی ذات اُجالا ہی اُجالا ہے

مقبول نقش



سلام شافعِ روزِ جزا سلامِ عليك
سلام مالکِ ہر دوسرا سلامِ عليك
سلام ساقی کوثر سلامِ رحمتِ کُل
شہرِ حجازِ شفیعِ الوریٰ سلامِ عليك
سلام منظرِ حُسن و جمالِ لم یزلی
ضیائے طلعتِ بدرالدجیٰ سلامِ عليك
تو نازنینِ دو عالم تو صدرِ بزمِ جمال
سلام منظرِ نورِ خدا سلامِ عليك
بشر کو تو نے نوازا ہے آدمیت سے
سلام مشعلِ راہِ ہدیٰ سلامِ عليك
پہرا نہ بابِ کرم سے ترے کوئی محروم
سلام چشمۂ لطف و عطا سلامِ عليك
ترا وجودِ مقدس ہے معنیِ لولاک
جہانِ گن کی ہے تو ابتدا سلامِ عليك
اسے بھی پاس بلا لیجئے خدا کے لئے
قمر کے ہاتھ میں وقفِ دعا سلامِ عليك

قمریزدانی



امامِ عالم امیرِ بطحا رسولِ اکرم سلام علیک
تمہیں ہو قبلہ تمہیں ہو کعبہ رسولِ اکرم سلام علیک
ظہورِ قدرت نزولِ رحمت حبیبِ رحماں سخیِ دوراں
رحیمِ دنیا کریمِ عقبے رسولِ اکرم سلام علیک
بھٹک رہے ہیں ہمیں سنبھالو ہمارے اعمال کو چھپالو
سروں پہ کر دو کرم کا سایہ رسولِ اکرم سلام علیک
پڑے ہیں قدموں سے دور آقا ہمارا کیا ہے قصور آقا
بلالو ہم بیکسوں کو طیبہ رسولِ اکرم سلام علیک
پڑے ہیں ہم جھولیاں پیارے ہیں غم زدہ گردشوں کے مارے
کرم نوازی میں دیر کیا ہے رسولِ اکرم سلام علیک
شکتہ حالوں نے ہے پکارا نگاہِ لطف و کرمِ خدارا
تمہاری رحمت پہ ہے بھروسہ رسولِ اکرم سلام علیک
دکھے دلوں کی صدائیں سن لو ہماری کچھ التجائیں سن لو
تمہیں تو عالم کے ہو سہارا رسولِ اکرم سلام علیک

عبدالحمید بیگ عالم



شاہِ ملکِ رسالت پہ لاکھوں سلام
تخت و تاجِ نبوت پہ لاکھوں سلام
ایسی صورت پہ سیرت پہ لاکھوں سلام
ایسی رفعت پہ عظمت پہ لاکھوں سلام
ایسی چشمِ عنایت پہ لاکھوں درود
ایسے حسنِ شفاعت پہ لاکھوں سلام
نگہت گیسوئے پاک پر ہوں درود
عارضِ حسنِ حضرت پہ لاکھوں سلام
ایسے ہادیٰ برحق پہ لاکھوں درود
ایسی حشمت پہ شوکت پہ لاکھوں سلام
بزمِ کونینِ روشن ہوئی آپ سے
جلوۂ نورِ قدرت پہ لاکھوں سلام
ہم تہی دست اور آپ سب کے طفیل
ایسی قادرِ کفالت پہ لاکھوں سلام
بن گیا حق میں امت کے اجرِ جمیل
درِ دلِ عشقِ حضرت پہ لاکھوں سلام

درد کا کوروی



مصطفیٰ ﷺ کی عبادت پہ لاکھوں سلام
ان کی چاہت و شفقت پہ لاکھوں سلام
ان سا کوئی جہاں میں نہیں دوسرا
ان کی صورت و سیرت پہ لاکھوں سلام
مالک دو جہاں پیٹ، خانی مگر!
ان کی جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام
زخم کھا کر بھی دی دشمنوں کو دعا
ان کی بے مثل عادت پہ لاکھوں سلام
ان کے قدموں پہ سارا جہاں جھک گیا
ان کی فہم و فراست پہ لاکھوں سلام
خدمت خلق جس کا تھا شیوہ عدا
اس سراپا محبت پہ لاکھوں سلام
اس کا بر، فعل تفسیر قرآن کی
اس کے قول و بصیرت پہ لاکھوں سلام
لالہ کی صدا ہے قیامت تک
ہے خمار اس کی حمت پہ لاکھوں سلام

خمار فاروقی



الصلوة والسلام، اے رحمت اللعالمین
ہادی جن و بشر سرتاج بزمِ مُرسلین
لائے جب تشریف اقدس سرورِ دنیا و دیں
جو حیرت ہوگئی چرخِ بریں نافِ زمیں
کون ہے ایسا حسین درِ چشمِ عالم آفریں
دونوں عالم میں بجز خیرالبشر کوئی نہیں
آپ سا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں
غم گسارِ نوعِ انساں مرہمِ جانِ حزیں
ہر کرم سے ہے سوا یہ نعمتِ عظمیٰ قدیم
اک نئی دنیا ہوگی پیدا بروز بارہویں
احمد مختار ہیں وہ شاہِ کارِ کردگار
جن کا ثانی آسماں پر ہے نہ بروئے زمیں
اللہ اللہ مجھ پہ حُسنِ بخششِ ذکرِ نبی
لطفِ سیرِ خلد پاتا ہوں اے واثقِ برز میں

واثقِ ذائقہ



سر زمین عشق و مستی کی ہواؤں کو سلام
آسمان شہر اقدس کی گھٹاؤں کو سلام
لوحِ دل پر آیتِ عشقِ نبی ﷺ کا ہے نزول
ملکِ توفیقِ پیمبر کی فضاؤں کو سلام
کشتِ لب پر ہے نئے دن کے اجالوں کا نفاذ
شہرِ مرگاں میں فروزاں کہکشاؤں کو سلام
ان کے در پر سر جھکاتی ہیں جو بہر احترام
جھولیاں بھرتی ہوئی ان التجاؤں کو سلام
صاحبِ دربارِ عالی پر درودوں کے گلاب
کانپتے ہونٹوں پہ مہکی سی دعاؤں کو سلام
ان کی گلیوں کے حسیں بچوں پہ جان و دل نثار
امن کی ان آسمانی فاختاؤں کو سلام
آسماں سر پر سجا کر رقص میں ہے آج بھی
نقشِ پائے مصطفیٰ ﷺ کی انتہاؤں کو سلام
جو ہیں مصروفِ وضو تسنیم و کوثر سے ریاض
ان حروفِ نعت کی دلکش اداؤں کو سلام

ریاض حسین چودھری



السلام اے مصطفیٰ و مجتبیٰ
السلام اے مبتدا و منتہا
السلام اے آقا و مولائے من
السلام اے طبا و ماوائے من
السلام اے درمند و چارہ ساز
السلام اے عارف و دانائے راز
السلام اے ہادی و خیر الامم
السلام اے شمع محرابِ حرم
السلام اے رحمت اللعالمین
السلام اے عازم عرش بریں
السلام اے صاحبِ اُم الکتاب
السلام اے دینِ حق کے آفتاب
السلام اے بے نظیر و بے مثال
السلام اے خوش خصال و باکمال
السلام اے رونقِ ارض و سما
السلام اے شانِ لولاک لما

مہر وجدانی



سلام آپ ﷺ سلطانِ ہر دو جہاں ہیں
سلام آپ ﷺ ہی شافعِ عاصیاں ہیں
سلام آپ ﷺ باغِ جنان کے گل تر
سلام و درود اے دو عالم کے سرور ﷺ
سلام آپ ﷺ پر فخرِ عیسیٰ و مریم
سلام آپ ﷺ پر رحمتِ ہر دو عالم
سلام آپ ﷺ پر نور و رحمت کے پیکر
سلام و درود اے دو عالم کے سرور ﷺ
سلام آپ ﷺ پر آمنہ کے دلارے
سلام آپ ﷺ پر اے حلیمہ کے پیارے
سلام آپ ﷺ پر بیکسوں کے سہارے
سلام آپ ﷺ پر دورِ غم ہوں ہمارے
سلام آپ ﷺ پر محرمِ سرِ داور
سلام و درود اے دو عالم کے سرور ﷺ

سرورِ بدایونی



السلام اے فخرِ انساں السلام
نازشِ نازِ رسولاں السلام
اے سراپاِ شرحِ قرآنِ السلام
السلام اے عینِ ایمانِ السلام
یاد تو بس راحتِ جاںِ السلام
دردِ تو خود عینِ درماںِ السلام
السلام اے چارۂ بے چارگاں
اے سکونِ دردمنداںِ السلام
ذکر تو بس مونس و غمِ خوارِ ما
حُب تو بنیادِ ایمانِ السلام
رحمتِ عالمِ شفیقِ ناصیاں
دستِ اُمتِ رانہاںِ السلام
جلوہِ فرما دورِ شبِ رویاِ ما
اے دوائے دردِ ہجرانِ السلام
پھر کرم کی مجھ پہ ہو جائے نگاہ
پھر ترا مُشتاقِ ہو اور تیری راہ

سید غلام معین الدین



محمد ﷺ ہیں وہ حامد ﷺ ہیں وہ احمد ﷺ ہیں وہ رحمت ﷺ ہیں
وہ عادل ﷺ ہیں وہ صادق ﷺ ہیں وہ دین حق کی حجت ﷺ ہیں
وہ منزل ﷺ وہ مدثر ﷺ وہ طیب ﷺ جانِ شفقت ﷺ ہیں
درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہی نور الہدیٰ ﷺ اپنے وہی ہیں مصطفیٰ ﷺ اپنے
وہی محمود ﷺ و اکمل ﷺ ہیں وہی ہیں مجتبیٰ ﷺ اپنے
وہی محرم ﷺ وہی قاسم ﷺ وہی ہیں مرتضیٰ ﷺ اپنے
درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہی شمس الضحیٰ ﷺ، چہرہ، خدائی میں حسین وہب ﷺ ہیں
وہی ﷺ وائل زلفوں میں، امام العاشقین وہب ﷺ ہیں
خطیب دو جہاں وہب ﷺ ہیں، رسولِ آخرین وہب ﷺ ہیں
درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
اُنہی ﷺ کی باتِ مجھی اب یہاں تمہید ٹھہری ہے
اُنہی ﷺ کی ذات ہے جو قابلِ تقلید ٹھہری ہے
نگاہ و دل کی راحت بھی اُنہی ﷺ کی دید ٹھہری ہے
درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر

محمد اقبال مجھی



راہوار نبوت پہ لاکھوں سلام
بدر میں تو نزول ملائک ہوا
کار زار نبوت پہ لاکھوں سلام
کیا کہوں جو احد سے محبت رہی
کوہسار نبوت پہ لاکھوں سلام
جو قدم مبارک کی زینت رہا
اس غبار نبوت پہ لاکھوں سلام
کوئی دیکھے رفاقت ابو بکرؓ کی
یار غار نبوت پہ لاکھوں سلام
اللہ اللہ فاروق کا دبدبہ
ذی وقار نبوت پر لاکھوں سلام
بہر عثمانؓ رضواں کی بیعت ہوئی
جاں نثار نبوت پہ لاکھوں سلام
مر تفضیٰ باب شہر علوم نبی ﷺ
شاہکار نبوت پہ لاکھوں سلام
جس کے دو پھول پیارے حسنؓ اور حسینؓ
شاخسار نبوت پہ لاکھوں سلام
ہر صحابی نبی ﷺ پر تصدیق رہا
جاں سپار نبوت پہ لاکھوں سلام
ساری امت پہ ہوں ان گنت رحمتیں
پاسدار نبوت پہ لاکھوں سلام
جس کو ترسا کئے چشم و دل اے نفیس
اس دیار نبوت پہ لاکھوں سلام

سید نفیس الحسنی



کس کو یہ رُتبہ ملا ہے کس نے پایا یہ مقام
ہے لبِ کونین پر بھی الصلواة و السلام
الصلواة و السلام اے مہبطِ روح الامیں
الصلواة و السلام اے رحمۃ اللعالمیں
الصلواة و السلام اے تاجدارِ ہل اتی
الصلواة و السلام اے افتخارِ انبیا
الصلواة و السلام اے حاملِ خلقِ عظیم
الصلواة و السلام اے صاحبِ لطفِ عمیم
الصلواة و السلام اے مرکزِ علم و یقین
الصلواة و السلام اے حاملِ دینِ متین
الصلواة و السلام اے پیکرِ حُسنِ عطا
الصلواة و السلام اے شافعِ روزِ جزا
الصلواة و السلام اے مایہِ بے مایگاں
الصلواة و السلام اے رحمتوں کے سائباں
السلام اے نورِ یزداں الصلواة و السلام
آفتابِ صُبحِ ایماں الصلواة و السلام
یزدانی جالندھری



سلام اُس ﷺ پر جسے بعد از خدا سب پر بڑائی ہے
سلام اُس ﷺ پر رسائی عرش اعظم جس نے پائی ہے
سلام اُس ﷺ پر کہ جس نے عاجزوں کی دستگیری کی
سلام اُس ﷺ پر کہ دو عالم کی شاہی میں فقیری کی
سلام اُس ﷺ پر کہ جس نے اپنے بیگانے کا غم کھایا
سلام اُس ﷺ پر کہ جس نے رحمت عالم لقب پایا
سلام اُس ﷺ پر کہ دنیا میں نئی جس نے بنا ڈالی
سلام اُس ﷺ پر کہ پیواؤں یتیموں کا ہوا والی
سلام اُس ﷺ پر کہ دل میں دشمنوں کے گھر کیا جس نے
سلام اُس ﷺ پر پڑھائے درس ایفا و صفا جس نے
سلام اُس ﷺ پر گروہ شیطنت کو جس نے لرزایا
سلام اُس ﷺ پر کہ جس نے ہر طلسم کفر کو ڈھایا
سلام اُس ﷺ پر کہ ظالم طاقتوں کو سر کیا جس نے
سلام اُس ﷺ پر کہ بد خواہوں کو خیرہ سر کیا جس نے
شگفتہ ہیں جگر میں لالہ صورت داغ حسرت کے
سلامی کاش اب بچپن ہو روضے پہ حضرت ﷺ کے
بے چین رجپوری



سلام اُس پر کبھی آسودہ ہر کر جو نہ سوتا تھا
سلام اُس پر جو شب کے آخری حصوں میں روتا تھا
سلام اُس پر کہ سجدوں سے جبیں جس کی متور تھی
سلام اُس پر کہ جس سے زینتِ محراب و منبر تھی
سلام اُس پر ہیں جس کی جلوہ گاہیں یثرب و بطحا
سلام اُس پر کہ جس کی خوابگاہ ہے گنبدِ خضرا
سلام اُس پر جوارِ پاک جس کا رشکِ سینا ہے
سلام اُس پر دیارِ محترم جس کا مدینہ ہے

یحییٰ اعظمی



رسولِ پاک ، شہدِ انبیاء سلام علیک
صیبِ خالقِ ارض و سما سلام علیک
سیاہِ کملی میں کون و مکاں کے اُجیالے
بشر کی شکل میں فضلِ خدا سلام علیک
جہاں کی ڈوبتی کشتی اُبھارنے والے
عرب کے مطلبی ناخدا سلام علیک
چراغِ خانہ کعبہ ہزار تجھ پہ درود
کروڑ اے مدنی مہ لقا سلام علیک
ستم زدوں کے مددگار بے کسوں کے شفیق
دوائے ہر مرض لا دوا سلام علیک
جہاں پہ مہر کے موتی بکھیرنے والے
خدا کے چشمہ مہر و عطا سلام علیک
مہ قریش ، جگر پارہ ابوطالب
قرار و صبر دل آمنہ سلام علیک
حصولِ دولتِ کونین ہو مجھے احمد ﷺ
کریں قبول جو حضور مرا سلام علیک
احمد سہارنپوری



سلام اُس پر کہ جس کو احمد مختارؒ کہتے ہیں
جسے اہل نظر اللہ کا شہکار کہتے ہیں
سلام اُس پر کہ جس کی ہر ادا تفسیر قرآن ہے
سلام اُس پر کہ جس کا نام تسکینِ دل و جاں ہے
سلام اُس پر کہ جس کی طالبِ دیدار ہے دنیا
سلام اُس پر کہ جس کے لطف سے سرشار ہے دنیا
سلام اُس پر کہ جس کی یاد سے گھر گھر اجالا ہے
سلام اس شاہِ بطحا پر جو کالی کملی والا ہے
سلام اس پر ملی ہے جس سے ڈھارسِ غم کے ماروں کو
سلام اس پر سکوں بخشا ہے جس نے دلفگاروں کو
سلام اس پر کہ جس کی ہر ادا رحمت کی ڈالی ہے
سلام اس پر زمانہ جس کی چوکھٹ کا سواہی ہے
سلام اس پر دلوں کو حوصلہ جس کے کرم سے ہے
سلام اس پر فروغِ بزمِ امکان جس کے دم سے ہے
سلام اس پر کہ جو جانِ مشیتِ حُسنِ ایماں ہے
زہے قسمت، رضا اس ذاتِ عالی کا ثنا خواں ہے
محمد اکرم رضا



اے افتخارِ عظمتِ پیغمبراں سلام
اے شہرِ یارِ مملکتِ قدسیاں سلام
صدق و خلوص ہے مرا سرمایہٴ حیات
تسکینِ روح و مایہٴ مائیگاں سلام
ظلم ہے سارے عالمِ اسلام پر محیط
اے روشنیِ محفلِ کون و مکاں سلام
ہے آپ کا وجودِ گرامی دلیلِ حق
ہیں آپ کے فیوضِ کراں تا کراں سلام
میری کہاں مجال کہ میں نذر کر سکوں
اے شاہِ کبریا ترے شایانِ شاں سلام
وارفتہٴ خیال تہی دست و کم نصیب
لایا ترے حضورِ شہید دو جہاں سلام
یہ آرزو ہے میری دمِ واپسینِ شکر
لب پر مرے درود ہو درِ زباں سلام

عبدالکریم شکر



تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں
مرے چمن کی فضا میں سلام کہتی ہیں
عطا ہوئیں جو عجم کے حسین مناظر کو
وہ دلکشی وہ ادائیں سلام کہتی ہیں
تمہاری یاد میں برسوں جو بن کے اب بہار
وہ آنسوؤں کی گھٹائیں سلام کہتی ہیں
درِ قبول پہ جو باریاب ہو نہ سکیں
وہ غم نصیب دعائیں سلام کہتی ہیں
تمہارے ہجر میں اٹھیں جو خانقاہوں سے
وہ اہل دل کی صدائیں سلام کہتی ہیں
تمہارے نام کی عزت پہ ہو گئیں جو نثار
وہ غازیوں کی وفائیں سلام کہتی ہیں
مرے وطن سے جو آئی تھیں لے کے بوئے وفا
وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں سلام کہتی ہیں

حکیم نیرداس علی



اے صبا مصطفیٰ ﷺ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں
یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں
اللہ اللہ حضور ﷺ کی باتیں مرجبا رنگ و نور کی باتیں
چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں
اللہ اللہ حضور ﷺ کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو
جن سے معمور ہے فضا ہر سو وہ نظارے سلام کہتے ہیں
جب محمد ﷺ کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے
لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں
زار طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا
آپ کی گردِ راہ کو آقا بے سہارے سلام کہتے ہیں
ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا
حاجیو مصطفیٰ ﷺ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں

انور فرخ آبادی



السلام اے کملی والے السلام
السلام اے بھولے بھالے السلام
یا محمد ﷺ یا نبی ﷺ یا مصطفیٰ ﷺ
ماہِ رحمت کے اُجالے السلام
شاہِ بطحا ﷺ شاہِ دیں ﷺ شاہِ اُمم ﷺ
آمنہ بی بی کے پالے السلام
دلبرِ حق تاجدارِ انبیاء ﷺ
خلد والے عرش والے السلام
سیدِ کونینؑ محبوبِ خدا ﷺ
دو جہاں کے تاج والے السلام
جانِ انور شافعِ روزِ جزا ﷺ
لامکاں تک جانے والے السلام

انور فرخ آبادی



جو رازداروں کے رازداں ہیں وہ ابتداء ہیں وہ انتہا ہیں
جو دونوں عالم میں صوفشاں ہیں وہ ہی نبوت کا دائرہ ہیں
جو ساری امت پہ مہرباں ہیں وہ روز محشر کا آسرا ہیں
جو وجہ تخلیق دو جہاں ہیں وہ مصطفیٰ ﷺ ہیں وہ مجتبیٰ ﷺ ہیں
درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
جو بے سہاروں کا آسرا ہیں محبتوں کا نشان ہیں وہ
جو غم کے ماروں کا آسرا ہیں ہماری جائے امان ہیں وہ
جو دلفگاروں کا آسرا ہیں خدائے برتر کا مان ہیں وہ
گنہگاروں کا آسرا ہیں کہ دونوں عالم کی شان ہیں وہ
درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہ جو ہدایت کی انتہا ہیں بہار، جان بہار ہیں وہ
وہ جو شریعت کی انتہا ہیں ہمارے دل کا قرار ہیں وہ
وہ جو طریقت کی انتہا ہیں نواز عالی وقار ہیں وہ
وہ جو نبوت کی انتہا ہیں خدا کا بس شاہ کار ہیں وہ
درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر

ڈاکٹر نواز دیوبندی



دو عالم کے آقا سلام علیکم
نوید مسیحا سلام علیکم
ترے نور سے ہے ہر اک حسن پیدا
ترے حسن پر خود خدا بھی ہے شیدا
تری ذات اقدس میں کونین ہے گم

دو عالم کے آقا سلام علیکم

تری نکہت زلف کا نام جنت
نگاہیں کرم ہیں، ادائیں سخاوت
سکھایا ہے تو نے گلوں کو تبسم

دو عالم کے آقا سلام علیکم

گرے تو تمہارے کرم نے سنبھالا
تمہاری عطا نے دو عالم کو، پالا
خدائی کا مطلوب و مقصود ہو تم

دو عالم کے آقا سلام علیکم

خدا کی مشیت ترا ہر اشارا
زیارت ہے تیری خدا کا نظارا
کلام خدا تیرا حسن تکلم

دو عالم کے آقا سلام علیکم

تمہیں تو ہو خالد کا دین اور ایماں
تمہیں تو ہو اللہ کا خاص احساں
تمہیں روح نعمات کیف برنم

دو عالم کے آقا سلام علیکم

خالد محمود نقشبندی مجددی



آپ کے طرزِ کرمِ حسنِ عنایت کو سلام
لہجہ پُر نور کو حرفِ حکایت کو سلام
آپ سے منسوب ہر رسم و روایت کو سلام
یعنی عالی مرتبت قدِ نہایت کو سلام
ختم ہے جس ذاتِ اقدس پر فرازِ آگہی
مرحبا صلِّ علیٰ اے آئینہ اے روشنی
آپ کی اس منفرد تر پاسبانی کو سلام
اس عنایت اس کرم ، اس مہربانی کو سلام
ماورائے حد ہے جو اس بے کرانی کو سلام
عمرِ لافانی حیات جاودانی کو سلام
اللہ اللہ یہ صلہ ایسی سعادت کی گھڑی
مرحبا صلِّ علیٰ اے آئینہ اے روشنی
دامنِ گل پر نسیم صبح نے لکھا سلام
قطرہٴ شبنم ہیں یا پھولوں پہ تابندہ سلام
طائرانِ صحنِ گلشن نے کہا آقا ﷺ سلام
لکن داؤدی میں کرتا ہے ہر اک پتا سلام

رفیع الدین راز



شافعِ روزِ محشر پہ لاکھوں سلام
دین جن کا یہاں تا قیامت رہے
حائِ بے کساں رحمتِ کل جہاں
فتحِ مکہ پہ ہر اک خطا بخش دی
ہر نبوت محمد ﷺ کے تابع رہی
آپ ﷺ کا جسم اطہر ہے رشکِ گلاب
جن کی اُلفت ہے بنیادِ ایمان کی
آپ تخلیقِ اول ہیں اللہ کی
رب نے وائیل کہہ کر قسم کھائی ہے
عائشہؓ کو ملی سوئی جس نور میں
جس کی تصدیق کرتے رہے انبیاء
جن کے آنے سے تکمیل دیں ہوگی
جس کی پہچان ہے حکمت و تزکیہ
ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ
جو سراجِ منیر اور شمسِ الضحیٰ
ہو سلام اُن پہ جو ساتھ روئے میں ہیں
بارگاہِ نبی ﷺ میں لٹائے گہر

مالکِ حوضِ کوثر پہ لاکھوں سلام
ایسے بے مثل رہبر پہ لاکھوں سلام
زیر دستوں کے یاور پہ لاکھوں سلام
رحمتِ حق کے مظہر پہ لاکھوں سلام
نازشِ ہر پیمبر پہ لاکھوں سلام
قطرہ ہائے معطر پہ لاکھوں سلام
اسے محبوبِ داور پہ لاکھوں سلام
ساری خلقت کے مصدر پہ لاکھوں سلام
گیسوائے رشکِ عنبر پہ لاکھوں سلام
اُس جبینِ متور پہ لاکھوں سلام
اُس ہدایت کے محور پہ لاکھوں سلام
مرسلِ ربِ اکبر پہ لاکھوں سلام
اُس رسولِ مطہر پہ لاکھوں سلام
سبز گنبد کے منظر پہ لاکھوں سلام
دین کے مہرِ انور پہ لاکھوں سلام
اور عثمان و حیدر پہ لاکھوں سلام
پھول اس دیدہ تر پہ لاکھوں سلام

تنویرِ پھول



نور ربّ العلی السلام السلام
ہادی رہنما السلام السلام
آگئی جوش میں رحمت کبریاء
بزم ہستی میں ہر سو اجالا ہوا
جب ظہورِ شہید بحر و بر ہو گیا
عرش سے فرش تک تھی یہی اک صدا
لائے تشریف جب سرورِ انبیاء
حق کا مخلوق پر ہر کرم ہو گیا
تم ہو مہر عجم تم ہو ماہِ عرب
تم پہ صبح و مساہر گھڑی روز و شب
نور سے دل کو معمور کر دو نبی ﷺ
ہوں میں سائل مرا کاسہ بھر دو نبی
العطش کی سنیں گے نبی جب صدا
تشنگی ساری امت کی دینگے بجھا
ہم پہ ہو جائے یارب نگاہِ کرم
ان کے روضے پہ الطافِ با چشمِ نرم
نور ربّ العلی السلام السلام

یا شہ انبیاء السلام السلام
خلق کے پیشوا السلام السلام
نور سے اپنے پھر نور پیدا کیا
قدسیوں نے کہا السلام السلام
گونج اٹھی شور صلِ علی سے فضا
مصطفیٰ ﷺ مجتبیٰ السلام السلام
فخرِ دنیا و دین رحمتِ کبریا
کہہ رہی ہے صبا السلام السلام
تم ہو عالی نسب تم ہو والا حسب
یا شفیع الوریٰ السلام السلام
میری آنکھوں کو حسنِ نظر دو نبی ﷺ
ہے یہی التجا السلام السلام
حشر میں جام کوثر کریں گے عطا
بحرِ جود و سخا السلام السلام
آرزو ہے کہ جائیں مدینے کو ہم
ہم پڑھیں بار ہا السلام السلام
یا شہ انبیاء السلام السلام

الطافِ احسانی



رہتا ہے میرے ہونٹوں پر صبح و سدا سلام
جاری ہے تارِ بریٹ جاں پر سدا سلام
سانسوں کی ڈور پر ہے تسلسل درود کا
تسبیح دھڑکنوں کی ہے یا مصطفیٰ سلام
جب بھی کسی نے نازِ حبیبِ خدا لیا
ہونٹوں پہ میرے آگیا بے ساختہ سلام
بادِ صبا مدینے سے تیرا جو ہوگزر
پہنچائیو حضورِ شہید انبیا سلام
اس میں نہیں مبالغہ سچ تو ہے یہ ذکی
میری عبادت اور وظیفہ مرا سلام

ذکی قریشی



سرورِ کون و مکان شاہِ سلامِ علیک
قاسمِ نار و جنان شاہِ سلامِ علیک
شافعِ روزِ جزا ہادیِ دوسرا
چارہ بے چارگان شاہِ سلامِ علیک
واقفِ اسرارِ غیبِ دافعِ ہر شبہ و ریب
عالمِ رازِ نہاں شاہِ سلامِ علیک
دافعِ داغِ المِ داروئے ہر درد و غم
مرہمِ خستہ و لاں شاہِ سلامِ علیک
مقصد و مقصودِ ما شاہد و مشہودِ ما
نازِ تو و ردِ زباں شاہِ سلامِ علیک
ذاتِ تو در ہر زمان بود چون نہاں
از تو قدمِ رانشاں شاہِ سلامِ علیک
منظیرِ ذاتِ خدا جلوہ وہ انبیا
فخرِ شہِ مُرسلاں شاہِ سلامِ علیک
بخشِ زعشقِ خدا این اثرِ مُردہ را
زندگی جاوداں شاہِ سلامِ علیک

اثرِ عظیمِ آبادی



طلوعِ شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پر آقا درود بھیجوں
ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں
سفر کا آغاز جو کزوں میں مرے لبوں پر ہو نام تیرا
پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں
خدا کی بھیجی کتاب تو ہے مرا تو سارا نصاب تو ہے
حصولِ علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں
ہے رونق کائنات تجھ سے ہر ہے نخلِ حیات تجھ سے
شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں
میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں جنگِ احد کی باتیں
کشاکشِ خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں
میں اپنے ورثے میں میرے آقا فقط تری نعت چھوڑ جاؤں
اس اختتامِ سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں

زاہد فخرنی



طاقِ حرم سے آئی صدا، آپ ﷺ پر سلام
ختمِ رسل صیبِ خدا آپ ﷺ پر سلام
تاجر ہو دوست ہو کہ شریکِ حیات ہو
کوئی بھی آپ ﷺ سانہ ہوا آپ ﷺ پر سلام
صادق امین اور نگہ دارِ زندگی
اے پاسبانِ شرم و حیا آپ ﷺ پر سلام
شانِ نزولِ سورۃ اقرأ ہے لبِ کشا
عزالتِ نشینِ غارِ حرا آپ ﷺ پر سلام
گوچی وہ بتکدے میں صدا لا لا کی
مندِ نشینِ کوہِ صفا آپ ﷺ پر سلام
کہتے ہیں اب بھی مسجدِ اقصیٰ کے بام و در
اے پیشوائے اہلِ وفا آپ ﷺ پر سلام
اب بھی درود پڑھتے ہیں ہجرت کے راستے
پڑھتے ہیں اب بھی اہلِ رضا آپ ﷺ پر سلام
توفیق دے خدا تو پڑھے آپ ﷺ پر سلام
ورنہ کجا خیال کجا آپ ﷺ پر سلام

خیالِ آفاقی



اے حبیبِ خدا، رونقِ کل جہاں، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام
ہادیِ قدسیاں، زینتِ لامکاں، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام
میرا دین اور ایماں سبھی آپ ہیں، میرا ساز اور سامان بھی آپ ہیں
آپ پر ہیں تصدقِ مرے قلب و جاں، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام
یاد ہر دم دلوں میں رہے آپ کی، ہر تنفس میں خوشبو بے آپ کی
ہو ثنا آپ کی سب کے وردِ زباں، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام
رنگ و بو آپ کی ہے چمن در چمن بکھرا بکھرا بہاروں کا ہے بانگین
نورِ رخ آپ کا ہے جہاں در جہاں آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام
اپنے طالب پہ آقا کرم کیجئے، اب عطا اس کو دیدِ حرم کیجئے
رہبرِ انبیا، سرورِ دو جہاں، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام
ہم غلاموں کو اب بال و پردہ کیجئے، درِ مقصد سے دامن کو بھر دیجئے
جگ کے داتا، تم دستگیرِ جہاں، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام
علوی عاجز کو در پر بلا لیجئے، بگڑی تقدیر اب تو بنا دیجئے
غم گسارِ جہاں، رحمتِ انس و جاں، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام

ڈاکٹر نذیر علوی



سلام اے خاتمِ دورِ رسولاں یا رسول اللہ ﷺ
سلام اے قاسمِ بختِ بداماں یا رسول اللہ ﷺ
سلامی کے لئے لاکھوں فدائی در پہ حاضر ہیں
کروڑوں کو سلامی کا ہے ارماں یا رسول اللہ ﷺ
سلام اول در پُر نور پر حجاج کا سینے
کہ ہیں سرکارِ والا کے وہ مہماں یا رسول اللہ ﷺ
درِ اقدس پہ ہے جن کو سلامی کا شرف حاصل
ہیں اپنی خوش نصیبی پر وہ نازاں یا رسول اللہ ﷺ
کرم کے مستحق ہیں دورِ افتادہ فدائی بھی
کہ ہیں مدت سے وقفِ درِ ہجراں یا رسول اللہ ﷺ
مدینہ میں طلب فرمائیے ان خستہ جانوں کو
جنہیں ہے آستاں بوسی کا ارماں یا رسول اللہ ﷺ

شاہ عبدالرسول



دُرِّ یتیم و نازش پیغمبراں سلام
اللہ کے حبیب شہید انس و جاں سلام
جانِ جہاں سلام مسیح زماں سلام
درمانِ درد چارہ بے چارگاں سلام
تیری فصاحت اور بلاغت کا کیا جواب
امی لقب عرب کے فصیح اللساں سلام
مقدور کس کو ہے جو کوئی عرض کر سکے
اے شانِ کبریا ترے شایانِ شان سلام
اہلِ جہاں پہ ہیں ترے احسان بے شمار
بے حد درود تجھ پہ شہا بکراں سلام
ملا جو حاضری کا ادب کو شرف حضور ﷺ
کرتا ادب سے پیش سرِ آستاں سلام

ادبِ سیمابی



سلام علی شہر یارِ نبوت
سلام علی سید و پادشاہے
سلام علی بارگاہِ ہمایوں
سلام باہکِ نیاز و باہے
سلام علی مکہ و ہم مدینہ
سلام علی نقش کہسار و راہے
سلام علی ذرہ ہائے درِ تو
سلام علی گونے تو سجدہ گاہے
سلام علی مطلع الفجرِ روت
سلام علی ذاتِ تو صلحوا ہے
سلام علیک اے خطا پوشِ نصرت
بہ بارِ رحمت بریں رو سیاہے
خدایا! بہ بابِ النبی ﷺ آمدہ ام
شنو حال پرورد آغشتہ گاہے
خدایا! طفلِ نبی مکرم
رہا کن مرا از غمِ جان کا ہے

نصرتِ نوشاہی



رہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
خدا سے بندے ملانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
تو ہر زمانے میں ساری دنیا کا محسن بے بدل رہا ہے
خدا کا رستہ دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
ہر ایک مسلم کو اپنی الفت سے دہر میں سرفراز کر دے
محبتوں کے خزانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
غریب کی زیت کا ہے والی یتیم و بے کس کا آسرا ہے
دلوں کی ڈھارس بندھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
بدل دے میری حیاتِ فانی مجھے بھی کر دے تو جاودانی
نویدِ رحمت سنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
تری اطاعت ہے میرا جاذبہ توی محبت ہے میری منزل
غلط نگاہ سے بچانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
گدائے گوشہ نشین ہوں تیرا میں تیری الفت کا ہوں بھکاری
بنالے اپنا بنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
عطائے صحت کی التجا ہے میں ایک مدت سے ہوں فسرہ
شفا کا مژدہ سنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
میں تیرے در پر درود پڑھنے سلام کرنے کو پھر بھی آؤں
تمنا دل کی بڑھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر
نگاہِ اختر کے سامنے ہیں ترے حرم کے نقوش روشن
دل و نظر پر اے چھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر

اخگر سردی



تاجدارِ نوعِ انساں السلام
روشنی دیدہ و جاں السلام
اے صفا کے مہر رخشاں السلام
اے حرا کے ماہِ تاباں السلام
اے نسیمِ راحتِ جاں السلام
السلام اے روح و ریحاں السلام
غم گسارِ بے نوایاں السلام
دل نوازِ ما گدایاں السلام
اے جبینِ نورِ ایماں السلام
اے نگینِ عرشِ سُجھاں السلام
قدس کے نخلِ بہاراں السلام
خلد کے سر و خراماں السلام
اے توئی رحمتِ بداماں السلام
عفو فرمائے خطایاں السلام
اے عطائے مخزن و کاں السلام
اے سخا کے لہِ باراں السلام

طالبِ جلال



ہمارے رہبر خدا کے دلبر درود تم پر سلام تم پر
تہی تو ہو آخری پیبر درود تم پر سلام تم پر
تہی تو ہو حسن زمانہ تمہاری رحمت کا کیا ٹھکانہ
تہی تو ہو دو جہاں کے سرور درود تم پر سلام تم پر
تمہاری مرضی خدا کی مرضی جو تم ہو راضی خدا بھی راضی
کہ تم ہو محبوب رب اکبر درود تم سلام تم پر
نگاہ کا مدعا تہی ہو عخیال کا آسرا تہی ہو
حبیب داور شفیع محشر درود تم پر سلام تم پر
ہو اک نگاہ کرم ادھر بھی حیات آسان ہو بدرمی
سنوار دو اب مرا مقدر درود تم پر سلام تم پر

بدرساگری



باعثِ تکوینِ عالمِ ﷺ ، الصلوٰۃ و السلام
افضل و اعلىٰ مکرم الصلوٰۃ و السلام
ہر طرف چھائی ہوئی تھی کفر و ظلمت کی گھٹا
چل رہی تھی ہر طرف شرک و ضلالت کی ہوا
جبر و استبداد سے تاریک تھی ساری فضا
آپ ﷺ جب تشریف لائے اے شہِ ہر دوسرا
مطلعِ انوارِ رحمت بن گیا عالمِ تمام
باعثِ تنویرِ عالمِ الصلوٰۃ و السلام
بت پرستی کی طرف مائل تھے حق کو چھوڑ کر
حق سے غافل ہو گئے باقی سے رشتہ توڑ کر
راندہ و ملعون ہوئے اللہ سے منہ موڑ کر
آپ ﷺ کی آمد سے قائم ہو گیا حق کا نظام
رحمتِ خلاقِ عالمِ الصلوٰۃ و السلام
آپ ﷺ جب تشریف لائے تھے تو صحرائے جہاں
بن گیا تھا غیرتِ خلد بریں رشکِ جناں
چھا گیا تھا ہر طرف اک دلکش و رنگیں سماں
آپ ﷺ جب تشریف لائیں گے تو بہرِ عاصیاں
عرصہٴ محشر بنے گا محفلِ عشرتِ تمام
اے شفیعِ جملہ عالمِ الصلوٰۃ و السلام

محمد اسمعیل علی خاں تاج



سحر قریب ہے تارے سلام کہتے ہیں
مری نظر کے سہارے سلام کہتے ہیں
حریم پاک میں جا کر صبا یہ کہہ دینا
تمہیں غلام تمہارے سلام کہتے ہیں
صبا گذر ہو جو تیرا حضور ﷺ سے کہنا
شبِ فراق کے مارے سلام کہتے ہیں
لگا دیا ہے جہاں پر سفینۂ امت
وہاں ادب سے کنارے سلام کہتے ہیں
بصد نیاز فراق حضور ﷺ میں واللہ
وہ دن جو ہم نے گزارے سلام کہتے ہیں

رضا امر وہوی



سلام اس پر جو چمکا کفر کی کالی گھٹاؤں میں
سلام اس پر جو نغمہ بن گیا سونی فضاؤں میں
سلام اس پر جو اٹھا ہاتھ میں تیغِ دودم لے کر
سلام اس پر جو آیا ساتھ باراں کرم لے کر
سلام اس پر جو جلدہ گر ہوا روشن جبیں ہو کر
سلام اس پر جو آیا رحمتہ للعالمیں ہو کر
سلام اس پر جو سویا بھی تو حالِ قوم پر رو کر
سلام اس پر جو راتیں کاٹ دیتا خاک پر سو کر
سلام اس پر جو دیتا ہے فقیروں کو بھی دارائی
سلام اس پر جو دیتا ہے مریضوں کو مسیحائی
سلام اس پر جو ہے شمعِ ہدیٰ انوارِ سبحانی
سلام اس پر جو ہے تفسیرِ رحمت فیضِ ربانی

قاضی اطہر مبارکپوری



سلام اے سرورِ کونین اے مقصودِ یزدانی
سلام اے جلوۂ توحیدی و شمعِ بزمِ روحانی
سلام اے وہ کہ تیری ٹھوکروں میں تاجِ شاہانہ
سلام اے وہ کہ تیرے فقر میں تھی شانِ سلطانی
سلام اے وہ کہ تو ہے جانِ انصاف و رواداری
سلام اے وہ کہ تجھ سے جاگ اٹھی روحِ انسانی
جسے تیرے جمالِ حسنِ رحمت نے سجایا تھا
وہ دنیا ان دنوں ہے کشتہٴ درد و پریشانی
خصوصاً تیری امتِ کما عجب حالِ پریشاں ہے
نہ یارائے شکیبائی ، نہ تابِ دردِ پنہانی
تری چشمِ توجہ کی طلب ہے آدمیت کو
زمانہ چاہتا ہے پھر ترے الطافِ رحمانی
کرمِ اے پیکرِ لطف و نوازِ نوعِ انساں پر
کہ حد سے بڑھ گئی ہے گمراہی کی آج ارزانی

اختر حیدر آبادی



وہ حبیبِ خدا ، شاہِ ہر دوسری سید المرسلین ، خاتم الانبیاء
جس پہ بھیجے درود ، ربّ ارض و سما مقتدی جس کے ہیں انبیائے کرام

اُس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام

جس کی خاطر بنائے گئے ہیں جہاں جس کے دیکھے سے آجائے تن من میں جاں
جس کی نظروں میں ہے وسعتِ لامکاں جس کے مرہونِ منت ہیں عالم تمام

اُس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام

آج آیا باطن جو پہلے سے تھا جس سے پہلے نہ کوئی بھی پیدا ہوا
جو کہ ٹھہرا فقط مقصد و مدعا نور کو جس کے حاصل ازل سے دوام

اُس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام

اُس کے سر پہ سجا تاجِ ختم الرسل سرورِ دو جہاں ، قاسمِ جزو و کل
جس کی آمد پہ ہر سو کھلے کھل کے گل کر دیا جس نے انساں کو ذی احترام

اُس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام

سید الاولیاء ، سید الآخریں کیوں نہ اس کو کہیں زیبِ عرش بریں
جو کہ رحمتِ جہانوں کی ہے بالیقین جس کے ہاتھوں میں ہے مغفرت کا نظام

اُس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام

بے زبانی مری پاس ہے دُور ہے زندگانی کہ ہر غم سے معمور ہے
ہجر میں جس کے مجھ سا بھی مہجور ہے یاد میں جس کی روتا ہوں میں صبح و شام

اُس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام

عارف مہجور رضوی (سجرات)



خدا نے اُن پر درود پڑھ کر کہا ، درود و سلام پڑھیے
ہمیشہ پڑھیے ، مدام پڑھیے ، سدا درود و سلام پڑھیے
قرار جاں ایک دم ملے گا ضرور دل پھول سا کھلے گا
یقین نہ آئے تو مصطفیٰ ﷺ پر ذرا درود و سلام پڑھیے
جو چاہیے دو جہاں میں عظمت جو چاہیے شان اور شوکت
تو قول اپنے بڑوں سے ہم نے سنا درود و سلام پڑھیے
یہ ہے جو نام نبی اکرم ﷺ یہی ہے زخموں کا ایک مرہم
یہی ہے گویا سکونِ دل کی دوا درود و سلام پڑھیے
ان آنسوؤں کو زباں بنہ کبر فغاں کے دریا بہا بہا کر
یہ جی میں ان کے آستاں پر بسا درود و سلام پڑھیے
جو سُن کے جلتے ہوں ان کے آگے جو دیکھ جلتے ہوں ان کے آگے
سنا درود و سلام پڑھیے دکھا درود و سلام پڑھیے
یقین ہے مجھ کو یقین ہے مضطر یہ بخشوائے گا روزِ محشر
اگر ندامت کے آنسوؤں سے سجا درود و سلام پڑھیے

آفتابِ مضطر



سلام نقشِ اولیں سلام نورِ آخرین سلام صادق و امیں سلام رہبر یقین
سلام نازش امیں سلام آفتابِ دین سلام فخرِ مرسلین سلام رحمتِ مبیں

توئی پناہِ مذنبین

تو سراجِ سالکیں

سلام مونسِ حزیں

سلام ہادیِ ام سلام منبعِ کرم سلام آسماں خیم سلام کوکبِ حشم
سلام زینتِ حرم سلام نازِ کیف و کم سلام شاہِ محتشم سلام آخرین حکم

غلامِ بے نوا منم

تختِ عرضِ می کنم

سلام اکرم و کرم

سلام نقشِ جاوداں سلام رازِ کن فکاں سلام فیضِ بے کراں سلام جانِ عارفاں
سلام زینتِ جہاں سلام فخرِ آسماں سلام اولیں اذیاں سلام آخرین اماں

بہر نفسِ بہر زماں

بتو درودِ بے کراں

سلام شاہِ انس و جاں

سلام اسمِ معتبر سلام نطقِ پُر اثر سلام جانِ بحر و بر سلام روحِ دشت و در
سلام میرِ خشک و تر سلام صدقِ سر بہ سر سلام نادگیِ سحر سلام نورِ رہ گزر

بہ خلقِ کلِ حسین تر

حسین بہ شمس و باقمر

سلام قاسمِ ثمر

عزیزِ احسن



وہ جو شبنم کی پوشاک پہنے ہوئے
زرد پتوں کے جسموں میں لہرا گئے
جن کے نقشِ کفِ پا کی رعنائیاں
نسلِ آدم کو خاکِ شفا بن گئیں
عرشِ اعظم کی دہلیز کے اُس طرف
نام جن کا ازل ہی میں لکھا گیا
جو کتابِ جہاں کے سیہ حاشیے پر
اجالوں کی رحمت رقم کر گئے
اُن پہ پیہم سلام

اُن پہ پیہم درود

تاجِ رحمت کا سر پر سجائے ہوئے
پرچمِ عدل و احسان اٹھائے ہوئے
وہ جو آئے تو عہد بہارا آ گیا
عشق کو جن کے دل کی شریعت کہیں
ذکر کو جن کے جاں کی عبادت کہیں

وہ حبیبِ خدا

احمدِ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اُن پہ قرباں ہمارے تمہارے وجود
اُن پہ پیہم سلام
اُن پہ پیہم درود

صبحِ رحمانی



بارگاہِ حسنِ فطرت کی اداؤں کو سلام
التجاؤں کو دعائیں اور دعاؤں کو سلام
خاموشی پر عظمتِ کونین کی تسلیمِ شوق
عرش کو چھو کر جو آئیں اُن صداؤں کو سلام
دیکھتا کچھ اور ہوں، لیکن نظر آتا ہے کچھ
حق نمائی پر تصدقِ حق نماؤں کو سلام
ہر تڑپ میں اک خموشی، اور خموشی میں تڑپ
جو صدائیں بے صدا ہوں اُن صداؤں کو سلام
رنگِ رخ سے صاف ظاہر گنبدِ خضرا کا رنگ
نور سے معمور پھولوں کی قباؤں کو سلام
آپ کے دربار میں اور آپ ہی کے نام پر
بھیک جو سلطان کو بخشیں اُن گداؤں کو سلام
دل کے دونوں طرف کی جانب سے حضرت پرورد
اور وفاؤں کی طرف سے باوفاؤں کو سلام
قوتِ احساس سے پہلے ہی دل مجروح ہے
مستقیم ایسی اداؤں کی اداؤں کو سلام

حافظ محمد مستقیم خاں مستقیم



سلام اُن پر جو سرتاپا محبت ہی محبت ہیں
سلام اُن پر جو دنیا کے لئے رحمت ہی رحمت ہیں
سلام اُن پر کہ جن کے نام کے گھر گھر میں چرچے ہیں
سلام اُن پر کہ جن کے در پہ سر شاہوں کے جھکتے ہیں
سلام اُن پر کہ جن پر آدمیت ناز کرتی ہے
سلام اُن پر کہ دنیا جن پہ جان و دل سے مرتی ہے
سلام اُن پر شرف معراج کا بخشا جنہیں حق نے
سلام اُن پر جنہوں نے جلوے دیکھے اپنے خالق کے
سلام اُن پر کہ جن کا نام ہے وجہ قرارِ دل
سلام اُن پر ہے جن کی دید میرِ زیست کا حاصل
سلام اُن پر جو ہیں سب کی نگاہِ شوق کا محور
سلام اُن پر جو فخرِ انبیاء ہیں شافعِ محشر
سلام اُن پر جنہوں نے جگمگائے راستے دل کے
سلام اُن پر لئے جن کے قدم خود بڑھ کے منزل نے
سلام اُن پر پلاتے ہیں جو سب کو بادۂ وحدت
سلام اُن پر جنہوں نے کھول دی شاربِ تری قسمت

مقبول شارب



اے حبیبِ کبریا آپ ﷺ پہ لاکھوں سلام
شافعِ روزِ جزا آپ ﷺ پہ لاکھوں سلام
مژدہٴ جانِ تاب ہے خاتمہٴ بالآخر کا
آپ کی اُلفتِ شہا آپ ﷺ پہ لاکھوں سلام
وحشتوں میں قبر کی دہشتوں میں حشر کی
آپ ہی ہیں آسرا آپ ﷺ پہ لاکھوں سلام
آپ کی آمد ہوئی زندگی بننے لگی
سر بلند انساں ہوا آپ ﷺ پہ لاکھوں سلام
منتہی سے بھی پرے آنکھ والوں کو ملے
آپ ہی کے نقشِ پا آپ ﷺ پہ لاکھوں سلام
شارعِ دینِ میں شارحِ دینِ میں
مرتبہ ہے آپ کا آپ ﷺ پہ لاکھوں سلام
نزع میں منتظر ہو جب غل اٹھانا مل کے سب
مصطفیٰ یا مصطفیٰ آپ ﷺ پہ لاکھوں سلام

منتظر عارفی



روز و شب اور صبح و شام الصلوٰۃ و السلام
لازمی ہے یہ کلام الصلوٰۃ و السلام
ہر گھڑی مصروف ہیں اور پیش کرتے ہیں درود
سب ملائک خاص و عام الصلوٰۃ و السلام
سرور کونین بھی ہیں رحمت عالم بھی ہیں
ارفع و اعلیٰ مقام الصلوٰۃ و السلام
عاشقوں کا عشق ہے یہ عشق کی معراج ہے
گنگناتا صبح و شام الصلوٰۃ و السلام
انبیاء پیغام سب لاتے رہے پھر آپ سے
ہو گئی حجت تمام الصلوٰۃ و السلام
دیکھنے ہر امتی کو قبر میں آتے ہیں وہ
یاد کر لو یہ کلام الصلوٰۃ و السلام
ذکر محبوب الہی کیجئے تکریم سے
اول و آخر سلام ، الصلوٰۃ و السلام
اے کریمی پیش کر تو خدمت اقدس میں روز
سب غلاموں کا سلام الصلوٰۃ و السلام

آفتاب کرتی



محمد مصطفیٰ ﷺ پہ ہر دم درود پڑھیے سلام پڑھیے
شفیع روز جزا پہ ہر دم درود پڑھیے سلام پڑھیے
حق آشنا حق نما پہ ہر دم درود پڑھیے سلام پڑھیے
حرا کے خلوت سرا پہ ہر دم درود پڑھیے سلام پڑھیے
جو مظہر نورِ اولیں ہے جو مخبرِ صادق و امین ہیں
اُس آفتابِ ہدیٰ پہ ہر دم درود پڑھیے سلام پڑھیے
جو بے کسوں بے بسوں کا حامی سکوں فزا جس کا نام نامی
خدا کے اس دلربا پہ ہر دم درود پڑھیے سلام پڑھیے
وہ جس کا ایک ایک لفظ وحی خدا کی نعمت سے بہرہ ور سے
اس عبدِ کامل ادا پہ ہر دم درود پڑھیے سلام پڑھیے
وہ جن کی خلوت بھی انجمن ہے وہ ذکرِ جن کا چمن چمن ہے
ہر اک کے اس رہنما پہ ہر دم درود پڑھیے سلام پڑھیے
یہی تو یامینِ حکمِ رب ہے حصولِ ایمان کا سبب ہے
درودِ خیرالوریٰ پہ ہر دم درود پڑھیے سلام پڑھیے

یامین وارثی



سلام سید گل ، شاہ ذی وقار سلام
سلام خاصہ خاصان کردگار سلام
سلام خلق کے آقا کرم شعار سلام
تمہاری شان کریمی پہ بے شمار سلام
خلوص و عجز سے کہتے ہیں خاکسار سلام
قبول کیجئے مدینے کے تاجدار سلام
اٹھایا بار قیموں کی غم گساری کا
سلام تم پہ ، قیموں کے غمگسار سلام
تمہارے اسوۂ حسنہ کا بھی جواب نہیں
تمہارے اسوۂ حسنہ پہ صد ہزار سلام
ادھر بھی ایک نگاہ کرم شفیع نشور
کہ عرض کرتے ہیں رو کر گنہ گار سلام
نوازی ہے انہیں رحمتِ خدا پیہم
جو دل سے بھیجتے ہیں تم پر بار بار سلام
حضور ہی نے تو بخشا ہے دردِ دل انور
تڑپ کے عرض کریں کیوں نہ دلفگار سلام

انور فیروز پوری



سرورِ دین و دنیا پہ لاکھوں سلام
سب جہانوں کے آقا ﷺ پہ لاکھوں سلام
جن کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا کبھی
ایسے آقائے یکتا پہ لاکھوں سلام
بھیجتا ہے خدا اور ملائک بھی سب
تاجدارِ مدینہ پہ لاکھوں سلام
جن کے صدقے میں عالم بنائے گئے
ایسے سرکارِ والا پہ لاکھوں سلام
بزمِ قوسین جن کے لئے ج گئی
اُن کے روئے مجلیٰ پہ لاکھوں سلام
جن کے رطب اللساں ہیں زمیں آسماں
تا ابد ایسے آقا ﷺ پہ لاکھوں سلام
جن کے خادم بنے جبریل امین
مصطفیٰ ﷺ شاہِ بطحا پہ لاکھوں سلام
خاکِ بے نوا تم مسلسل پڑھو
تاجدارِ مدینہ پہ لاکھوں سلام

عزیز الدین خاکی



اے خدا کے آخری پیغامبر تم پر سلام
تم سے ہیں شام و سحر، شام و سحر تم پر سلام
پیاری بی بی آمنہ کے پیارے عبداللہ کے
لختِ دل، لختِ جگر، نورِ نظر تم پر سلام
اُس کی ہو جاتی ہے بخشش اُس کو مل جاتا ہے رب
بھیجتا ہے جو بھی خوش قسمت اگر تم پر سلام
اے مرے آقا سحر ہو یا مساتم پر درود
اے مرے مولا سفر ہو یا حضر تم پر سلام
ان کی تابندہ جبینوں میں تمہارا نور ہے
کیوں نہ بھیجیں پھر بھلا شمس و قمر تم پر سلام
ہجر کا صدمہ ہے ایسا ہوش کھو بیٹھا ندیم
بھیجتا رہتا ہے اس کا دل مگر تم پر سلام

خان اختر ندیم نقشبندی



سلام اُس پر کہ جس نے رخِ یَم الحاد کا موڑا
سلام اُس پر کہ جس نے کفر و ظلمت کا فسوں توڑا
سلام اُس پر کہ جس نے خلق میں وحدت کو چکایا
سلام اُس پر جو مل کر عرش پر اللہ سے آیا
سلام اُس پر بھرم قائم ہے جس سے دونوں عالم کا
سلام اُس پر کہ ہے جس کی رضا بھی مرضی مولا
سلام اُس پر کہ جس کا نام حُسنِ استخارہ ہے
سلام اُس پر جو ایمانِ مبیں کا استعارہ ہے
سلام اُس پر سنواری جس کے غم نے تاج کی ہستی
سلام اُس پر بسائی جس نے آکر پیار کی بستی

عبدال



السلام السلام شاہِ زمن

السلام السلام نورِ چمن

آپ ﷺ خیر البشر آپ ﷺ شمس الدجی

سید الانبیاء مصطفیٰ مجتبیٰ

السلام السلام شاہِ زمن

السلام السلام نورِ چمن

پیارے خیر الوریٰ کی بڑی شان ہے

اُن ﷺ کی حرمت پہ یہ جان قربان ہے

السلام السلام شاہِ زمن

السلام السلام نورِ چمن

دونوں عالم کے آقا سلام علیک

ہم غریبوں کے داتا سلام علیک

میں بھی اُن ﷺ پر سلام پڑھتا ہوں

بس یہی ایک کام کرتا ہوں

السلام السلام شاہِ زمن

السلام السلام نورِ چمن

رفیق مغل



طیبہ کے جانے والے میرا پیام کہنا
سرکارِ دو جہاں سے میرا سلام کہنا
تڑپا رہی ہے آقا مجھ کو تمہاری دوری
حاصل ہو اب خدارا دربار کی حضوری
مشکل سے کٹ رہے ہیں یہ صبح و شام کہنا
طیبہ کے جانے والے میرا پیام کہنا
وہ شہر دیکھنے کو بے چین ہیں نگاہیں
مدت سے کر رہا ہوں آقا میں التجائیں
آجائے اک بلاوا میرے بھی نام کہنا
طیبہ کہ جانے والے میرا پیام کہنا
خواہش نہیں یہ میری مل جائے مال و دولت
کوثر کے دل میں آقا ہے صرف ایک حسرت
ہو آخری وہاں پر میرا قیام کہنا
طیبہ کے جانے والے میرا سلام کہنا

کوثر بریلوی



بدرگاہِ ذی شانِ خیر الانام
شفیع الوریٰ مرجعِ خاص و عام
بصد عجز و منت بصد احترام
یہ کرتا ہے عرض آپ کا اک غلام

کہ اے شاہِ کونین عالی مقام

علیک الصلوٰۃ علیک السلام

محبت سے گھائل کیا آپ نے
دلائل سے قائل کیا آپ ﷺ نے
جہالت کو زائل کیا آپ ﷺ نے
شریعت کو کامل کیا آپ ﷺ نے

بیاں کر دیئے سب جلال و حرام

علیک الصلوٰۃ علیک السلام

نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال
وہ سب آپ میں جمع ہیں لامحال
صفاتِ جمال اور صفاتِ جلال
ہر اک رنگ ہے بس عدیم المثال

لیا ظلم کا عفو سے انتقام

علیک الصلوٰۃ علیک السلام

ڈاکٹر میر محمد اسماعیل



وہی جو محبوب کبریا ﷺ ہیں ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہ مصطفیٰ ﷺ ہیں ، وہ مجتبیٰ ﷺ ہیں ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
بزرگ جو بعد از خدا ہیں ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہی جو سردارِ انبیا ﷺ ہیں ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہ ڈوبی کشتی ترانے والے ، وہ سیدھا رستا دکھانے والے
وہ نا خدا ہیں ، وہ رہنما ہیں ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
بیاں ہو کیا سیرتِ نبی ﷺ کا ، وہ شہر ہیں علم و آگہی کا
مُعَلِّمِ مُصَحِّفِ خُدا ہیں ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
حضور ﷺ کے نورِ اوّلین سے ، زمین اور آسمان روشن
وہی تو کونین کی ضیا ہیں ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
بشیر وہ ہیں ، نذیر وہ ہیں ، امین وہ ہیں کریم وہ ہیں
وہ سرورِ دیں وہ پیشوا ہیں ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
وہ گوہرِ عصمت و حیا ہیں ، وہ پارساؤں کے پارسا ہیں
وہ عابد و عارفِ حرا ہیں درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر
فراق و آزاد بھی یہ کہتے ہیں ، سب کے مولا ہیں میرے آقا ﷺ
وہ سالکِ مسلکِ وفا ہیں ، درود اُن ﷺ پر سلام اُن ﷺ پر

سہ ماہی احمد سحر (شاہجہان پور)



آفتاب نبوت پہ لاکھوں سلام
ماہتاب رسالت پہ لاکھوں سلام
عرشِ اعظم سے جس پہ ہوں پیہم درود
اس کی عظمت کرامت پہ لاکھوں سلام
آپ ﷺ پر آپ ﷺ کے آل و اصحاب پر
سارے اہل قرابت پہ لاکھوں سلام
جس کے اخلاق قرآن میں خلقِ عظیم
اس کی اک ایک عادت پہ لاکھوں سلام
نطق میں جس کو حاصل جوامع کلم
اس فصاحت بلاغت پہ لاکھوں سلام
جس کو معراج میں خاص رفعت ملی
اس کی شان جلالت پہ لاکھوں سلام
اے ولی جس پہ خود حسن قربان ہو
دلربا اس ملاحت پہ لاکھوں سلام

ولی اللہ ولی عظیم آبادی



السلام اے راحتِ قلبِ مہربانِ السلام
السلام اے نطقِ قرآنِ جانِ ایمانِ السلام
السلام اے مشعلِ حقِ شمعِ عرفانِ السلام
السلام اے شمسِ رخِ اے ماہِ تابانِ السلام
صد سلامت می فریسم پے بہ پے فخرِ کرام

تا کہ آید علیکم در جوابِ صد سلام

السلام اے ساقیِ تسنیم و کوثرِ السلام
السلام اے ابرِ رحمتِ ظلِ محشرِ السلام
السلام اے راحت و تسکینِ مضطرِ السلام
السلام اے مونسِ کل بندہ پرورِ السلام
صد سلامت می فریسم پے بہ پے فخرِ کرام

تا کہ آید علیکم در جوابِ صد سلام

آپ کی چاہ و محبت مہر و شفقت پر سلام
آپ کی پاکیزگی و پاکِ طہیت پر سلام
آپ کی عزو جلالِ شانِ عظمت پر سلام
پیشِ خدمت ہے سلامِ گل بہ عز و احترام

صد سلامت می فریسم پے بہ پے فخرِ کرام

تا کہ آید علیکم در جوابِ صد سلام

ناظر حسین گل چاند پوری



دینِ حق کے پاسباں تجھ پر سلام
صدرِ بزمِ مُرسلاں تجھ پر سلام
ضامنِ امن و امان تجھ پر سلام
رہنمائے انس و جان تجھ پر سلام
تیری دنیا پر نظر ہے رات و دن
دستگیرِ بے کساں تجھ پر سلام
کھل گئے سر بستہ رازِ کن فکاں
کاشفِ سِرِّ نہاں تجھ پر سلام
آمنہ کے لالِ فخرِ ہاشمی
رواقِ ہر دوہ جہاں تجھ پر سلام
مالکِ گلِ شافعِ روزِ جزا
سرورِ کون و مکاں تجھ پر سلام
اپنی منزل سے ہوئے ہم آشنا
اے امیرِ کاروانِ تجھ پر سلام
پڑھ رہا ہے با وضو شام و سحر
یہ خلیلِ مدحِ خواںِ تجھ پر سلام

خلیلِ سیمابلی



اے جانِ افتخارِ دو عالم سلام ہو
صد تازہ کردگارِ دو عالم سلام ہو
ہر غنچہ ہر کلی کی زباں پر یہی تو ہے
اے روح صد بہارِ دو عالم سلام ہو
بخشی ہے تم نے عشق و محبت کی روشنی
محبوب کردگارِ دو عالم سلام ہو
ہے نغمہ زن ازل سے ہر اک شے ہر اک نفس
نورِ خدا و قارِ دو عالم سلام ہو
اے حسنِ لامکاں کی تجلی کے آئینے
اے رونق نگارِ دو عالم سلام ہو
قوسین کے نقوش کے محرم رسول پاک
اے فخر و تاجدارِ دو عالم سلام ہو
کہتے ہیں اہل عشق عقیدت سے یوں رضا
اے در شہوارِ دو عالم سلام ہو

سید نبی رضا عظیم آبادی



رہبر و رہنما ہادی و پیشوا ہوں ہزاروں صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ پر
ہر گھڑی ہر نفس بہر عشق و وفا ہوں ہزاروں صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ پر
ماہِ اوجِ سخا و بحرِ لطف و عطا ہوں ہزاروں صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ پر
مصطفیٰ مجتبیٰ کون ہے آپ سا ہوں ہزاروں صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ پر
آپ ﷺ مینارِ رشد و ہدایت بھی ہیں رب کی سب سے بڑی ایک نعمت بھی ہیں
آپ ﷺ سے دل ہوا ہے خدا آشنا ہوں ہزاروں صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ پر
سایہ امن ہے رحمتوں کی ردا میرے ہاتھوں میں ہے دامنِ مصطفیٰ ﷺ
موت آجائے چھوٹے نہ یہ رابطہ ہوں ہزاروں صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ پر
آپ محسن بھی ہیں آپ احسن بھی ہیں باغیوں کے لیے مردِ آہن بھی ہیں
گل نہ ہوگا کبھی ہیں وہ روشن دیا ہوں ہزاروں صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ پر
آپ خالق کے مطلوب ہیں کس قدر اس سے واقف ہیں دانا و اہل نظر
آپ کا مرتبہ عرش تک لے گیا ہوں ہزاروں صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ
انجم مضطرب کی خبر لیجئے میری چاہت پہ نظر کرم
آپ کو آپ کے نام کا واسطہ ہوں ہزاروں صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ پر

رحمانی



سرورِ دین کی عظمت پہ لاکھوں سلام
رحمتِ مَکَل کی رفعت پہ لاکھوں سلام
عرشِ اعلیٰ پہ حق سے ملاقات کی
ایسی شان وار قربت پہ لاکھوں سلام
آپ کے دم سے قائم ہیں دونوں جہاں
فخرِ عالم کی عزت پہ لاکھوں سلام
آپ اوّل نبی آپ آخر نبی
نورِ وحدت کی وسعت پہ لاکھوں سلام
چاند سورج بھی اُن پر فدا ہو گئے
اُن کی شانِ شہادت پہ لاکھوں سلام
خالقِ مَکَل کے محبوب ہیں مصطفیٰ
اس پیار اور الفت پہ لاکھوں سلام
اس عزیزِ گنہگار پر ہو نظر
آپ کی شانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

عزیزِ سہروردی



السلام اے مخزنِ جود و کرم
السلام اے مہبطِ وحی اتم
السلام اے خادمۃ جاہ و حشم
السلام اے چاکرت کسریٰ و جم
السلام اے منبعِ جود و سخا
السلام اے مبدأ بذل و عطا
السلام اے داروئے دردِ تہاں
السلام اے چارۃ بے چارگاں
السلام اے مطلعِ انوارِ حق
السلام اے محرمِ اسرارِ حق
السلام اے ہر دُعا را واسطہ
السلام اے شافعِ روزِ جزا
از سلیم بے نوا عرضِ سلام
گن قبول ، اے حضرت خیر الانام

ابوالکارم سلیم اللہ فہمی سلیم



آپ ﷺ کی شان و شوکت پہ لاکھوں سلام
خُسن و اخلاق و عظمت پہ لاکھوں سلام
اُن کی آمد پہ لاکھوں دیے جل اُٹھے
ایسے نورِ ہدایت پہ لاکھوں سلام
جتنے کعبہ میں بُت تھے سبھی گر پڑے
اُن ﷺ کی شانِ کرامت پہ لاکھوں سلام
اُن کو ہی ڈھونڈتا ہے ہر اک اُمّتی
اس شفیع شفاعت پہ لاکھوں سلام
عدل و انصاف دنیا کو اُن سے ملا
اُن کی اعلیٰ عدالت پہ لاکھوں سلام
وہ یتیموں کا ماویٰ حبیبِ خدا
ایسی شانِ رسالت پہ لاکھوں سلام
کیوں نہ بھیجے حفیظِ حزیں بار بار
مصطفیٰ ﷺ کی صداقت پہ لاکھوں سلام

عبدالحفیظ قادری حفیظ

سبھی چاند تارے سلام اُن پہ بھیجیں
 کہ دلکش نظارے سلام اُن پہ بھیجیں
 بڑا معتبر ہے یہ اعزاز لوگو !
 کہ خود رب ہمارے سلام اُن پہ بھیجیں
 سنیں نام جب بھی محمد ﷺ کا پیارا
 مسلمان سارے سلام اُن پہ بھیجیں
 ہو نورانی خلقت کہ جن و بشر ہو
 فرشتے بھی پیارے سلام اُن پہ بھیجیں
 خدا کی ہو رحمت یا قرآن کی آیت
 صحیفے ، سارے سلام اُن پہ بھیجیں
 ہیں دامن پیارے یہاں بے سہارے
 محبت کے مارے سلام اُن پہ بھیجیں
 عقیدت کا شاعر تقاضا یہی ہے
 کہ شعروں کے دھارے سلام اُن پہ بھیجیں

شاعر علی شاعر



باعث شادمانی ہے جس کا درود جس پہ اللہ بھی بھیجتا ہے درود

رحمتِ ربِّ اکبر پہ لاکھوں سلام

جس سے جلوے نمایاں ہوئے طور کے جس کے پرتو سے سانچے ڈھلے نور کے

اُس جمالِ متور پہ لاکھوں سلام

جس کے صدقے ملی ہے گلوں کی پھبن جس کی خوشبو بسی ہے چمن در چمن

اُس کی زلفِ معنبر پہ لاکھوں سلام

انبیاء و رسل کا جو سردار ہے بہشتِ بریں کا جو مختار ہے

مالکِ حوضِ کوثر پہ لاکھوں سلام

یاد سے جس کی آباد ہیں بحر و بر جس کے جلوؤں پہ قربانِ شمس و قمر

اس شہِ ہفت کشور پہ لاکھوں سلام

جس کی رحمت نے ادنیٰ کو اعلیٰ کیا پست کو جس نے دنیا میں بالا کیا

اس شہِ بندہ پرور پہ لاکھوں سلام

دشمنوں پہ بھی احسان جس نے کیا گھر کو امت پہ قربان جس نے کیا

جدِ شہیر و شہر پہ لاکھوں سلام

اس پہ ارشادِ عاصی کو بھی ناز ہے امتی امتی جس کی آواز ہے

شافعِ روزِ محشر پہ لاکھوں سلام

ارشادِ علیٰ ارشاد



سلام اُس پر خزاں میں بن کے جو فصل بہار آیا
سلام اُس پر کہ جس کے دم سے گلشن پر نکھار آیا
سلام اُس پر کھجوروں کی چٹائی پر جو سوتا تھا
سلام اُس پر جو اُمت کے لئے راتوں کو روتا تھا
سلام اُس پر جو والی ہے یتیموں کا لیروں کا
سلام اُس پر جو ہے آقا غریبوں کا امیروں کا
سلام اُس پر کہ جو عرش معظم پر ہوا مہماں
سلام اُس پر کہ جس کے بزم آب و گل پہ ہیں احساں
سلام اُس پر کہ سایہ جس کی رحمت کا زمینوں پر
سلام اُس پر کہ جس کا نور ہے روشن جبینوں پر
سلام اُس پر کہ جس کی زندگی تصویرِ قرآں ہے
سلام اُس پر کہ جس کی گفتگو تفسیرِ قرآں ہے
سلام اُس پر کہ جس نے راہ کے کانٹے ہٹائے ہیں
سلام اُس پر کہ جس نے پھولِ الفت کے کھلائے ہیں
سلام اُس پر حبیبِ ناتواں بھیجے نہ کیوں ہر دم
ہے جس کا نام نامی زخمِ دل کے واسطے مرہم۔

پروفیسر حبیب الرحمن رومی



اے رسولِ خدا سلام علیک
مرجا مرجا سلام علیک
آپ دونوں جہاں کے آقا ﷺ ہیں
شاہِ ہر دو سرا سلام علیک
جب خدا نے کوئی پیام دیا
سب سے پہلے لہا سلام علیک
آپ ﷺ مہتاب ، انبیاء انجم
اے مہ انبیاء سلام علیک
دونوں عالم ہیں آپ سے روشن
نورِ حق کی ضیاء سلام علیک
آپ ﷺ ہی بخشوائیں گے سب کو
اے شفیع الوریٰ سلام علیک
ہادیوں کے بھی آپ ﷺ ہیں ہادی
رہبرِ حق نما سلام علیک
آرزو جب بھی اُن ﷺ کا نام لیا
میرے دل نے کہا سلام علیک

نصیر آرزو



عرش کے مہنماں نبی ﷺ پر الصلوٰۃ و السلام
دین و دنیا کے ولی پر الصلوٰۃ و السلام
افصل کون و مکاں پر الصلوٰۃ و السلام
شافع محشر کی جاں پر الصلوٰۃ و السلام
رتبہ خیر الاماں پر الصلوٰۃ و السلام
محسن انساں نشاں پر الصلوٰۃ و السلام
جس کا چرچا فلک پر ہے با ادب اس پر سلام
نور افلاک زباں پر الصلوٰۃ و السلام
ہر گھڑی ہر وقت احقر الصلوٰۃ و السلام
بیکسوں کے مہرباں پر الصلوٰۃ و السلام
عرش کے مہماں نبی ﷺ پر الصلوٰۃ و السلام
دین و دنیا کے ولی پر الصلوٰۃ و السلام

احقر الہ آبادی



سلام اُس ﷺ پر جو ہے اکسیرِ زخمِ آبلہ پائی
نویدِ جاں فزا ہے جس کا ، اندازِ مسیحائی
سلام اُس ﷺ پر کہ جو محبوبِ ربِّ العالمین ٹھہرا
سلام اُس ﷺ پر جو میزِ کاروانِ مرسلین ٹھہرا
سلام اُس ﷺ پر جگایا جس نے ہم کو، خوابِ غفلت سے
ہمیں جس نے نوازا، دولتِ رُشد و ہدایت سے
سلام اُس ﷺ پر نمازِ حق میں جس کا نام آتا ہے
نظامِ بزمِ امکاں جس کے در پہ سر جھکاتا ہے
سلام اُس ﷺ پر جو مہمانِ خدا، ٹھہرا شبِ اسری
سلام اُس ﷺ پر خدا کو جس نے دیکھا تھا شبِ اسری
سلام اُس ﷺ پر کہ اسرارِ مشیت جس نے سمجھائے
زمینِ زادوں پہ جس نے سیکڑوں احسان فرمائے
سلام اُس ﷺ پر جو تہذیب و تمدن کی علامت ہے
بلا تفریقِ رنگ و نسل جو سب کی ضرورت ہے
سلام اُس ﷺ پر کہ جس کا ہر عمل تفسیرِ قرآن ہے
نثارِ اپنے لیے جس کی اطاعت شرطِ ایماں ہے

نثار احمد نثار



خاتم الانبیاء پر ہزاروں سلام
نور رب العلاء پر ہزاروں سلام
سید المرسلین پر مسلسل درود
شاہد کبریا پر ہزاروں سلام
حشر میں جو شفاعت کا ضامن بنا
اس شفیع الوریٰ پر ہزاروں سلام
بے نواؤں کو جس نے غنی کر دیا
اس کی شانِ عطا پر ہزاروں سلام
جس کے جلووں سے روش ہوئے دو جہاں
اس مہ دوسرا پر ہزاروں سلام
اس نے کھولا ہدایت کا ہر راستہ
ہادی و رہنما پر ہزاروں سلام
وجہ تسکین جس کی نگاہ کرم
اس حبیبِ خدا پر ہزاروں سلام
بس کہو صدق دل سے یہی اے سعید
سرورِ انبیاء پر ہزاروں سلام

محمد سعید دہلوی



السلام اے نورِ حق اے رحمتِ ربِّ الالنام
السلام اے خیرِ خلق اللہ نبیوں کے امام
السلام اے شافعِ محشرِ شہیدِ عالی مقام
با ادب ہم پیش کرتے ہیں فقیرانہ سلام
اے وجودِ رحمتِ حق باعثِ کون و مکاں
آپ ﷺ پر ہوں دم بدم بارِ دگر لاکھوں سلام
آپ ﷺ کی خاطر بنائے ہیں خدا نے کل جہاں
آپ ﷺ ہیں دراصل مختارِ جہاں خیرالانام
آپ سے پہلے نہ تھا ہوگا نہ کوئی آپ سا
رحمتِ حق عقلِ کل مختارِ کل خیرالانام
یا محمد مصطفیٰ ﷺ بہر خدا کیجے قبول
اختر شیراز کی جانب سے سوغاتِ سلام

اختر شیرازی



التجاؤں کا وسیلہ ہے درود اور سلام
حشر کی دھوپ میں سایہ ہے درود اور سلام
میری پونجی مرا سرمایہ مرا راس المال
میرے ایماں کا تقاضا ہے درود اور سلام
ہے یقین مجھ کو دعاؤں کی قبولیت کا
میں نے جس روز سے سیکھا ہے درود اور سلام
مونس و ہمد و دمساز ہے ہر حالت میں
روح کے غم کا بھادوا ہے درود اور سلام
اسم اعظم ہے بڑا سب سے وظیہ ہے یہی
روٹھے لمحوں کا سہارا ہے درود اور سلام
بیٹھتے اٹھتے شب و روز زباں پر لاؤ
آخرت کے لئے توشہ ہے درود اور سلام
سبز گنبد کے تصور میں پڑھو اے نازش
دید سرکار ﷺ کا رستہ ہے درود اور سلام

محمد حنیف نازش قادری



السلام اے شانِ ملتِ گنبدِ خضرا سلام
مدینِ فخرِ رسالتِ گنبدِ خضرا سلام
تجھ میں ہیں آرامِ فرما بادشاہِ دو جہاں
مسکنِ انوارِ رحمتِ گنبدِ خضرا سلام
رشکِ قسمتِ پر تری کرتی ہے عالم کی زمیں
منظہرِ ذاتِ نبوتِ گنبدِ خضرا سلام
تیرے دامن سے ہیں وابستہ قلوبِ مسلمین
مخزنِ فیضانِ قدرتِ گنبدِ خضرا سلام
سبز گنبد سے ہویدا عز و شانِ معرفت
منبعِ نورِ ہدایتِ گنبدِ خضرا سلام
سر کے بل جاتے ہیں تجھ تک حاجیوں کے قافلے
مصدرِ صد شان و عظمتِ گنبدِ خضرا سلام
تیرے ہی دیدار کو انسانیت ہے بے قرار
دین و ملت کی امانتِ گنبدِ خضرا سلام
دیکھ کر تجھ کو بجا لیتے ہیں پیاسے اپنی پیاس
چشمِ فیضانِ قدرتِ گنبدِ خضرا سلام

شہاب قاضی پوری



خواجہ دوسرا سلام علیک
افسر انبیا سلام علیک
ماہ اوج عطا سلام علیک
مہر بروج سخا سلام علیک
شاہ تاج و لوا سلام لیک
فخر شاہ و گدا سلام علیک
محر توحید کے ہو تم بے شک
گوہر بے بہا سلام علیک
تم سے دونوں جہان ہیں روشن
تم ہو بدر الدجی سلام علیک
بلبل باغ اثما تم ہو
صاحب ہل اتی سلام علیک
کہہ رہے ہیں ملائک اور بشر
شبہ ارض و سما سلام علیک
منتظر کہ رہا ہے با آداب
اے حبیب خدا سلام علیک

منتظر



شفاعت کا تاج مکمل ہے سر پر
سلام آپ ﷺ پر شافع روزِ محشر ﷺ
سلام آپ ﷺ پر اے نبی مکرم ﷺ
سلام آپ ﷺ پر اے رسولِ مطہر ﷺ
سلام آپ ﷺ پر چارہ سازِ غریباں
فقیروں کے مونس ، غریبوں کے یاور
جمالِ محمد ﷺ سے پھیلا اُجالا
سلام آپ ﷺ پر اے سراپاِ منور
مدینے کی گلیاں تھیں خوشبو سے مہکی
سلام آپ ﷺ پر اے معنبر ، معطر
امیروں ، غریبوں ، فقیروں کے آقا ﷺ
سلام آپ ﷺ پر دونوں عالم کے سرور
حبیبِ خدا ﷺ ، وجہِ تخلیقِ عالم
سلام آپ ﷺ پر صاحبِ حوضِ کوثر
سلام آپ ﷺ پر تاقیامِ قیامت
محمد ﷺ ، رسولِ خدا ﷺ ، ماہِ انور

عروجِ قادری



مصطفیٰ مصطفیٰ سلام علیک

مجتبیٰ مجتبیٰ سلام علیک

نبی نوا کی نوا سلام علیک

رحمتوں کی روا سلام علیک

رب کے مہمان تم تھے اسریٰ کی شب

اے شبہ دوسرا سلام علیک

کہہ رہے ہیں بھی ملائک تمہیں

کہہ رہا ہے خدا سلام علیک

ہر نبی آپ کی امامت میں ہے

نور انبیاء سلام علیک

روضہ مصطفیٰ ﷺ پہ مل کر پڑھیں

سارے شاہ و گدا سلام علیک

آیا یاد نبی کے فیضان میں

نب پہ صل علی سلام علیک

نام آقا ﷺ سنا تو ریحان کے

دل سے آئی صدا سلام علیک

ریحان کراچی



اے حبیبِ خدا تم پہ لاکھوں سلام
خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام
عرشِ اعلیٰ پہ تم کو بلایا گیا
صاحبِ دوسرا تم پہ لاکھوں سلام
تم ہو محبوبِ رب تم ہو مطلوبِ رب
تم سے راضی خدا تم پہ لاکھوں سلام
ہر نبی بھی تمہاری حضوری میں ہے
سید الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام
تم ہو خیر البشر تم ہو شمس الضحیٰ
تم ہی خیر الوری تم پہ لاکھوں سلام
دوستوں کو دُعا دشمنوں کو دُعا
مرحبا مرحبا تم پہ لاکھوں سلام
بن کے ہادی زمانوں کے آئے ہو تم
تم ہو نور الہدیٰ تم پہ لاکھوں سلام
میں تو پتھر ہی تھا تم نے پارس کیا
تم سے سب کچھ نکلا تم پہ لاکھوں سلام

طہور خان پارس



خدا کے پیارے خدا کے دلبر درود تم پر سلام تم پر
بناؤ بگڑا ہوا مقدر درود تم پر سلام تم پر
غم جدائی میں جل رہا ہوں جگر میں شعلے بھڑک رہے ہیں
دکھاؤ جلوہ بلا کے در پر درود تم پر سلام تم پر
بڑا ہوں سارے جہاں سے آقا عمل سے خالی ہے میرا دامن
نبھالو مجھ کو بھی اے پیسیر درود تم پر سلام تم پر
غلام ہوں میں تمہارے در کا بچاؤ دوزخ سے یا محمد ﷺ
کرم ادھر بھی شفیع محشر درود تم پر سلام تم پر
تمہیں پہ ہے ناز عاصیوں کو تمہاری رحمت پہ ہے بھروسہ
تمہیں ہو دونوں جہاں کے رہبر درود تم پر سلام تم پر
ملے اگر حکم باریابی تو سر کے بل جاؤں میں مدینے
کہوں قدم پر نثار ہو کر درود تم پر سلام تم پر
جب آخری وقت ہو زماں کا تو سامنے ہو تمہارا جلوہ
یہ التجا ہے صیب داور درود تم پر سلام تم پر

زماں سہرابی



سلام اُن پر جو محبوب خدا ہیں

سلام اُن پر جو ہیں شمس الضحیٰ بھی

سلام اُن پر جو ہیں بدرالدجی بھی

سرایا محرم عرشِ غلا بھی

سلام اُن پر جو اسرارِ بدی ہیں

سلام اُن پر جو محبوب خدا ہیں

بہارِ افروز یہ گمشدہ جن سے

ہماری عاقبت روشن ہے جن سے

مراہوں سے پھرا دامن ہے جن سے

سلام اُن پر جو مہتابِ حرا ہیں

سلام اُن پر جو محبوب خدا ہیں

جلا افکار کو ایسی عطا ہو

شکیل اُن کی ثناء صبح و مسا ہو

کہ حق احسان کا کچھ تو ادا ہو

مرے بلجا و ماوا مصطفیٰ ﷺ ہیں

سلام اُن پر جو محبوب خدا ہیں

شکیل مدنی



سلام اُس پر شعورِ زندگی جس نے سکھایا ہے
سلام اُس پر کہ جس نے ہم کو خالق سے ملایا ہے
سلام اُس پر کہ جس نے کفر و باطل کو مٹایا ہے
سلام اُس پر کہ جس نے نعمۂ وحدت سنایا ہے
وہی نورِ ازل پیشانیِ آدم پر جو چمکا
اُسی نورِ ازل نے دو جہاں کو جگمایا ہے
علومِ ظاہر و باطن خدا نے جس کو بخشے ہیں
اُسی خیر البشر نے رازِ جینے کا سکھایا ہے
کیا ہے آپ نے نابودِ رسمِ بت پرستی کو
جو بتخانہ تھا مولا نے اُسے کعبہ بنایا ہے
ہم اس غفلت میں آخرِ زندگی کب تک گذاریں گے
بہت کچھ ہم نے حیرتِ اپنی غفلت سے گنویا ہے

حیرت جو پوری



نور چشم آمنہ اے ماہ طلعت السلام
مظہر حسن و کمال دست قدرت السلام
شہر یارِ تختِ اقلیم نبوت السلام
اے ماہ انوار بہ گردون رسالت السلام
پاک طہیت خوبصورت نیک سیرت السلام
پیکر اخلاقِ اعلیٰ بدرِ رحمت السلام
حق نما اے آئینہ دارِ حقیقت السلام
کامل المعیار در فصلِ امانت السلام
صاحبِ معراج اے ختم نبوت السلام
اے مطاعِ دو جہاں آقائے امت السلام
دافعِ ظلم و فساد و بربریت السلام
مرحبا پیغمبرِ امن و اخوت السلام
آخری امید گاہ عاصیاں یومِ نشور
اے شفیع المذنبین روزِ قیامت السلام
بخشنے والے جلا قلب و نظر کو زندہ باد
دینے والے تحفہ ترآن و سنت السلام

محمد عبدالحمید صدیقی نظر لکھوی



السلام اے نور پاکِ اولیں

السلام اے شمعِ بزمِ آخریں

ساقی کوثرِ شہِ دنیا و دیں

آپ ﷺ ہیں بے شک شفیع المذنبین

السلام اے باعث کون و مکاں

السلام اے راز دار گن و کماں

بادیِ اعظم ، سراجِ سالکان

نہیں فدا سب آپ ﷺ پر پیر و جوان

السلام اے پیشوائے اولیاء

السلام اے بادشاہِ انبیاء

فخرِ آدم ، شافعِ روزِ جزا

نورِ یزداں رحمتِ ہر دوسرا

بشیرِ زواری



منظہر نورِ حق جلوہ بار آگیا
حسنِ عالم پہ گویا نکھار آگیا
جس کی توصیف ہے بر لبِ قدسیاں
دستِ قدرت کا وہ شاہکار آگیا
جس سے دنیا کو ملا ہے اک نیا فکر و شعور
رہبرِ اعظم کو اس سالارِ دوراں کو سلام
جس کے دم سے ہو گیا سرسبز ہر اک خار و گل
گلشنِ عالم کے اس جانِ بہاراں کو سلام
گوہرِ حق و صداقت جس نے دنیا کو دیئے
عالمِ قدوس کے اس بحرِ عرفاں کو سلام
جس سے ہے دونوں جہاں سب نوعِ انساں کا وقار
عظمتِ انسانیت کے اس نگہباں کو سلام
بن کے آیا جو مساوات و اخوت کا نقیب
اس محبت کے امیں اس فخرِ دوراں کو سلام
جو حقیقت میں ہے عاصی کے لئے جائے پناہ
ایسے ظلِ عاطفت کو ایسے داماں کو سلام

توصیفِ علوی عاصی



اے ہمارے پیارے آقا ﷺ الصلوٰۃ و السلام
رہبر دنیا و عقبی الصلوٰۃ و السلام
آپ ﷺ ہیں محبوب رب اور آپ ﷺ ہی سے ہے حیات
آپ سے رحمت ہے ہر جا الصلوٰۃ و السلام
آپ کی امت میں ہم ہیں یہ بڑا اعزاز ہے
کیوں نہ پھر قرباں ہوں مولا الصلوٰۃ و السلام
ہم وہ مسلم ہیں نبی کے نام لیوا اس قدر
ہر جگہ ہر اک پڑھے گا الصلوٰۃ و السلام
ارض طیبہ سے یہ دوری کہہ رہی ہے دم بدم
کاش یہ روضے پہ پڑھتا الصلوٰۃ و السلام
ہے یہ ناصر آپ ﷺ کے دین میں سے پر ضیا
آپ ﷺ نے بخشا اجالا الصلوٰۃ و السلام

ناصر الدین صدیقی



اپنے آقا مصطفیٰ ﷺ کو پیش کرتا ہوں سلام
رحمتِ ربِ العالیٰ کو پیش کرتا ہوں سلام
زینتِ ارض و سما کو پیش کرتا ہوں سلام
ابتدا و انتہا کو پیش کرتا ہوں سلام
ہے خدا اُن ﷺ کا مُحب اور وہ خدا کے ہیں حبیب ﷺ
یعنی محبوبِ خدا کو پیش کرتا ہوں سلام
ہے مدینے کی زمیں کا ذرہ ذرہ معتبر
اُن ﷺ کے ہر ہر نقشِ پا کو پیش کرتا ہوں سلام
واسطہ جس کا رہا تھا اور ہے سرکارِ ﷺ سے
میں اسی آب و ہوا کو پیش کرتا ہوں سلام
مدحتِ سرکارِ ﷺ میں لکھا گیا بولا گیا
ایک اک حرفِ ثنا کو پیش کرتا ہوں سلام
آسرا میرا تو آسی بس مرے سرکارِ ﷺ ہیں
شافعِ روزِ جزا کو پیش کرتا ہوں سلام

آسی سلطانی



حضور آپ ﷺ کی عظمت پہ بے شمار سلام
حضور آپ ﷺ کی رفعت پہ بار بار سلام
وہ سرفرازی ملی آپ ﷺ کو مرے آقا
کہ جن و انس ہی کیا بھیجے کردگار سلام
عظیم رتبہ دیا رب نے آپ ﷺ کو آقا
کہ بھیجتے ہیں شہنشاہِ ذی وقار سلام
حضور آپ کی دل پر مرے حکومت ہے
حضور آپ ﷺ پہ سو جان سے نثار سلام
غلام آپ ﷺ کا مشتاق دید کا طالب
قبول کیجئے طیبہ کے شہر یار سلام

محمد مشتاق حسین قادری کاشمیری



رہیں یہ پڑھتے سبھی مسلسل درود اُن پر سلام اُن پر
یہ زیت گذرے یونہی مکمل درود اُن پر سلام اُن پر
جو وقت کے ہیں امام سارے انہی کے در کے غلام سارے
ہے فیض اُن کا سبھی پہ جل تھل درود اُن پر سلام اُن پر
چلو نا یارو سبھی مدینے گھٹائیں چھائی ہیں رحمتوں کی
برستے ہیں واں کرم کے بادل درود اُن پر سلام اُن پر
الم ہو غم ہو کہ کرب و آفت انہی کی مدحت سے ہوگی راحت
بلائیں لاکھوں ٹلیں گی ہر پل درود اُن پر سلام اُن پر
تو اشک نا در بہا اُجاگر تو مانگ لے ان سے قلب مضطر
دے چھوڑ عادت تو اپنی چنچل درود اُن پر سلام اُن پر

نثار علی اُجاگر



سلام اے رحمتِ عالم، سلام اے نورِ یزدانی
سلام اے فخرِ آدم اور فخرِ نوعِ انسانی
سلام اے مالکِ کوثرِ شفیعِ امتِ عاصی
سلام اے معدنِ لطف و کرم محبوبِ سبحانی
سلام اے رونقِ کعبہِ سلام اے زینتِ طیبہ
سلام اے مظہرِ علم و ہدایتِ شمعِ ایمانی
سلام اس ذاتِ اقدس پر مدینہ جس کا مسکن ہے
سلام اس پر کریں جبریل جس کے در کی دربانی
ہوا پر تور کعبہ آپ ﷺ کے فیضِ ولادت سے
شبِ ظلمت ہوئی کافور آئی صبحِ نورانی
پڑا پر تو عرب پر آپ ﷺ کی صبحِ سعادت کا
ہوا روشن پڑی جس دم شعاعِ نورِ ایمانی
درخشاں زوئے انور اور اس پر رعب کا عالم
نظر بھر کر کوئی کب دیکھتا تھا شکلِ نورانی
سلام اس خستہ دل تسلیم کا منظور فرمائیں
زہے قسمت اگر مقبول ہو جائے ثنا خوانی

امۃ اللہ تسلیم



السلام اے آفتابِ کوہِ فاراں السلام السلام اے حاملِ پیغامِ یزداں السلام
السلام اے باعثِ تخلیقِ انساں السلام السلام اے وجہِ تسکینِ دل و جاں السلام
السلام اے ساقیِ تسنیم و کوثر السلام
السلام اے زینتِ محراب و منبر السلام
السلام اے شمعہٴ بزمِ نبوت السلام السلام اے گوہر تاجِ رسالت السلام
السلام اے باعثِ تزئینِ جنت السلام السلام اے رہبرِ راہِ ہدایت السلام
السلام اے ماہِ تابِ عرشِ بطحا السلام
السلام اے رہنمائے دین و دنیا السلام
السلام اے رونقِ بزمِ دو عالم السلام السلام اے باعثِ معراجِ آدم السلام
السلام اے ہادیِ دینِ نکرَم السلام السلام اے عاجز و بے کس کے ہم دم السلام
السلام اے آمنہ کے لعل اے دُرِ یتیم
السلام اے راحتِ جاں راحتِ قلبِ نسیم

وحید: نسیم



السلام اے نور ربّ کبریا
السلام اے خاص محبوب خدا
السلام اے شافع یوم الحساب
السلام اے دافع رنج و عذاب
السلام اے بیکسوں کے داد رس
السلام اے خلق کے فریاد رس
السلام اے دردمندوں کے دوا
السلام اے کل مریضوں کے شفا
میں بھی ہوں اب رحم کی امیدوار
حال میرا ہے بہت زار و نزار
جو مرض لاحق ہے وہ اب زور ہو
گر عنایت مرہم کافور ہو
دفع ہو دل کا مرے رنج و الم
آرزوئے احمدی بر آئے سب

احمدی بی بی



سلام اے پیکرِ نوری سلام اے ظنِ سبحانی
سلام اے ماہِ اوجِ شرع ، شمعِ بزمِ امکانی
سلام اے مہرِ انور کی ضیائے تاجِ نورانی
سلام اے بختِ گردوں کے ستاروں کی درخشانی
سلام اے رحمتِ عالمِ سلام اے ہادیِ اکرم
سلام اے نورِ ہستی اے سراجِ بزمِ ایمانی
سلام اے اشرفِ الانساں سلام اے صاحبِ قرآن
محمد مصطفیٰ ﷺ کے طالع کی درخشانی
سلام اے دادِ مظلومی علاجِ دردِ محکومی
سلام اے بیکسوں کے دادِ رسِ اسلام کے بانی
سلام اے بزمِ عالم کو اجالا بخشنے والے
شرابِ زندگانی کا پیالا بخشنے والا

نورِ بدایونی



سلام اے جلوہ خالق بر سلام اے نور یزدانی
سلام اے سرور کونین شمع بزم ایمانی
سلام اے رحمۃ اللعالمین اے ہادی برحق
سلام اے رہنما پشت پناہ نوع انسانی
سلام اے سید عالم سلام اے سرور اکرم
سلام اے تازش شہان و فخر بزم شاہانی
سلام اے تاجدار انبیا اے مرسل اعظم
تو ہی خیر البشر ہے اور حبیب خاص ربانی
بنائے قصر ہستی ہے سب تخلیق عالم کا
ہوئی قائم تری تنویر سے یہ بزم امکانی

رابعہ پنہاں بریلوی



سلام اُن پر جہاں میں حق کا جو پیغام لائے ہیں
سلام اُن پر دو عالم میں جو رحمت بن کے آئے ہیں
سلام اُن پر جو سچائی کا پیکر بن کے آئے ہیں
سلام اُن پر جو انسانوں کے رہبر بن کے آئے ہیں
سلام اُن پر جنہوں نے جہل کی ہستی مٹا ڈالی
بتوں کے شہر میں دین الہی کی بنا ڈالی
سلام اُن پر غلاموں کے لئے جو بن گئے رحمت
قیموں کے لئے تھی گود جن کی سایہِ جنت
سلام اُن پر کہ جن کے نور سے دنیا متور ہے
پینہ جن کا بوئے گل سے بھی بڑھ کر معطر ہے
سلام ان پر کہ جو تفسیر ہیں قرآن کے پاروں کی
سلام اُن پر جبیں شرمندہ ہے جن سے ستاروں کی

نور جہاں عرب نوری



نبی ﷺ کی روح مطہر پہ ہو درود و سلام
رسول اکرم ﷺ و انور پہ ہو درود و سلام
اس آفتاب منور پہ ہو درود و سلام
ہمارے ہادی و رہبر پہ ہو درود و سلام
حبیب خالق اکبر پہ ہو درود و سلام

ہزار بار پیمبر پہ ہو درود و سلام
وہ آفتاب ہدایت وہ نور صل علی
چراغ محفل آفاق شمع بزم ہدی
ضیائے مجلس عالم رسول ربّ علا
لقب ہے جن کا کہ شمس الضحیٰ و بدرالدجی

حبیب خالق اکبر پہ ہو درود و سلام

ہزار بار پیمبر پہ ہو درود و سلام

دلیر ایسا کہ دشمن نہ کر سکے مغلوب
حلیم ایسا مخالف کو کر لیا محبوب
وہ باوقار کہ شاہان دہر تھے مرعوب
وہ متقی کہ خدا کو ہر اک عمل مرعوب

حبیب خالق اکبر پہ ہو درود و سلام

ہزار بار پیمبر پہ ہو درود و سلام

نوشاہ خاتون



تو ہے خیر البشر تو ہے خیر الانام

ہے زمانے میں بے مثل تیرا کلام

السلام السلام السلام

تو ہے محبوب حق تو ہے ماہ مبین

تو ہے نور ہدیٰ تو ہے ماہ تمام

السلام السلام السلام

صبح کی روشنی شام کی دلکشی

بزم امکاں میں چمکا ہے ترا ہی نام

السلام السلام السلام

فخر کون و مکاں رہبر انس و جاں

تو ہے عالی نسب تو ہے عالی مقام

السلام السلام السلام

انجم کے لب پر ہر دم ہے تیری صدا

انجم کا ہے وظیفہ یہی صبح و شام

السلام السلام السلام

انجم النساء



احمد مجتبیٰ سلام علیک
سید الانبیاء سلام علیک
آپھنسی ہے بھنور میں کشتی غم
آپ ہیں نا خدا سلام علیک
چشمِ رحمت ہمارے حال پہ ہو
یا حبیبِ خدا سلام علیک
مل گیا تجھ سا پیشوا ہم کو
زہے صلِ علی سلام علیک
بعد اللہ کے خدا کی قسم
تو ہے سب سے سوا سلام علیک
میں تو بندی ہوں میں ہوں کس مد میں
بھیجتا ہے خدا سلام علیک
سن نو روداد اب بسم کی
تجھ پہ صبح و مساء سلام علیک

زیحانہ بسم فاضلی



رحمت للعالمین السلام السلام
اے شفیع المذنبین السلام السلام
خاتم المرسلین السلام السلام
آپ کے نور کی روشنی آگئی
دل کو تسکین ملی زندگی آگئی
گل مہکنے لگے تازگی آگئی
غم زدوں کے لبوں پر ہنسی آگئی
رحمت للعالمین سلام السلام
اے شفیع المذنبین السلام السلام
یہ معطر حسین تر یہ نگہت کے پھول
یہ سلاموں کے ہار اور محبت کے پھول
عرشہ بھی ہے لائی ارادت کے پھول
آپ کی نذر ہیں یہ عقیدت کے پھول
اے شفیع المذنبین السلام السلام
خاتم المرسلین السلام السلام

عرشہ علوی



میں نے ہونٹوں پر سجایا الصلوٰۃ والسلام
حرزِ جاں میں نے بنایا الصلوٰۃ والسلام
خواب میں اک روز دیکھا حشر کے میدان میں
سب نے مل کر ہے سنایا الصلوٰۃ والسلام
عاشقانِ مصطفیٰ ﷺ کی بس یہی پہچان ہے
دل سے اک نعرہ لگایا الصلوٰۃ والسلام
دور ہوں گی مشکلیں تیرہ شمی مل جائے گی
روشنی کا ہے صحیفہ الصلوٰۃ والسلام
زندگی ہی زندگی ہے ذکرِ رب العالمین
ہے عبادت کا خزانہ الصلوٰۃ والسلام
اس کو دنیا مل گئی عقبی اُمس کی ہو گئی
قلب میں جس نے سجایا الصلوٰۃ والسلام
زندگی میں کامیابی گر ہویدا چاہیے
وردِ لب کرلو وظیفہ الصلوٰۃ والسلام

یونس ہویدا



عظمتِ مصطفیٰ ﷺ پر کروڑوں سلام
اُن ﷺ کے جو د و سخا پر کروڑوں سلام
اُن ﷺ کو طائف میں کتنا ستایا گیا
صبرِ معجز نما پر کروڑوں سلام
وہ تبسم کریں پھول کلیاں بنیں
اُن ﷺ کی ہر اک ادا پر کروڑوں سلام
جس کے صدقے میں عالم بنایا گیا
اُس حبیبِ ﷺ خدا پر کروڑوں سلام
حق کا رستہ دکھایا ہے جس نے ہمیں
ہاں اسی رہنما پر کروڑوں سلام
دائم اُن پر دُرووں کی بارش رہے
ہر گھڑی مصطفیٰ ﷺ پر کروڑوں سلام
اُن کی چوکھٹ پہ آئے جو طاہر قضا
طاہر ایسی قضا پر کروڑوں سلام

طاہر سلطانی



آپ ﷺ ہیں عالی مقام مومنو بھیجو سلام
سب ملائک صبح و شام ورد لب کرتے ہیں نام
الصلوة والسلام الصلوة والسلام

آپ ﷺ ہیں شیریں سخن آپ ﷺ جان انجمن
آپ ﷺ ہی سے ہے چمن آپ ﷺ ہیں حسن تمام
الصلوة والسلام الصلوة والسلام

مومنو کی جاں ہیں آپ ﷺ بولتا قرآن ہیں آپ ﷺ
عرش پر مہماں ہیں آپ آپ ﷺ پر ہر دم سلام
الصلوة والسلام الصلوة والسلام

آپ ﷺ ہیں صادق امیں آپ ﷺ سا کوئی نہیں
آپ ﷺ ہیں سب سے حسین آپ ﷺ ہیں ماہ تمام
الصلوة والسلام الصلوة والسلام

صدقہ نعلین دیں صدقہ دارین دیں
صدقہ حسنین دیں ہے یہی طاہر پیام
الصلوة والسلام الصلوة والسلام

طاہر سلطانی

تضمین برسلام، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

طاہر سلطانی

حمد کرنے خدا کی یہ کون آگیا
رنگ جس کا ہر اک رنگ پہ چھا گیا
زندگی کا ہر اک راز سمجھا گیا
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا
اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

بول وحدت کے کانوں میں آنے لگے
خلق و ایثار دل میں سامنے لگے
جن کی آمد سے سب غم ٹھکانے لگے
جس سے تاریک دل جگمگانے لگے
اُس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام

ایسا صادق امیں ہم نے دیکھا نہیں
جو بلا حکم رب بات کرتا نہیں
بے خبر جو غریبوں سے رہتا نہیں

ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں
شاہ کی ساری اُمت پہ لاکھوں سلام

سرورِ انبیا رحمتِ دو جہاں
جن کو اللہ نے دی ہے اپنی زباں
وہ کلامِ خدا اور وہ شیریں بیاں

پتلی پتلی گلِ قدس کی چیاں
اُن لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام

خوشبوؤں سے معطر گلستاں رضا
اُن پہ قربان میرے دل و جاں رضا
حاصل سرکار کا ہے یہ احساں رضا

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

☆☆☆☆☆

متفرق اشعار

السلام اے مرے سرکار ﷺ کملیا والے

السلام اے مختار کملیا والے

السلام اے شہ ابرار کملیا والے

السلام اے مرے غمخوار کملیا والے

ماہتابِ فلکِ ملتِ اسلام، سلام

آفتابِ سحرِ عظمت و اکرام، سلام

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

علامہ سیماب اکبر آبادی



السلام اے شہ کونین، حبیبِ داور

السلام آبروئے دین و حیات و عقبی

صبا اکبر آبادی



یا محمد تمنائے کون و مکاں، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر

اے مُرادِ زماں حسرتِ دو جہاں، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر

روح صدق یقین، جان ایمان و دین، راحت عاشقیں، رحمت عالمیں
 دستگیرِ زماں، شافعِ بیکساں، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر
 کچے بہرآد پر اک نگاہِ کرم، اس کو رکھتا ہے بیتاب طیبہ کا غم
 آپ کا نام ہے اس کے وردِ زباں، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر
 بہرآد لکھنوی نیازی



روح سلطانِ اُمت پہ لاکھوں سلام
 جانِ پاکِ رسالت پہ لاکھوں سلام
 نورِ انوارِ قدرت پہ لاکھوں سلام
 سرِ اسرارِ وحدت پہ لاکھوں سلام
 مصطفیٰ مجتبیٰ سید الانبیا
 صدرِ بزمِ رسالت پہ لاکھوں سلام
 مولانا یعقوب حسین ضیاء القادری بدایونی



لاکھوں سلام اُس جانِ جہاں پر
 دونوں جہاں ہیں جس کے سلامی
 رئیسِ امر و ہوی



ذکرِ حبیبِ خدا ہے مرنے لب پر مدام
صبحِ درود و سلامِ شامِ درود و سلام



امن کے اس نقیب پر بھیجِ علیمِ ناتواں
لاکھ سلام اور درود لاکھ درود اور سلام

علیمِ ناصری



السلام اے ماتھی داستانِ محشر را کفیل
السلام اے یومِ پرشِ حسبنا اللہ نعم الوکیل
السلام اے دردِ عصیاں را دوائے جاں نواز
السلام اے آتشِ جاں را نویدِ سلسبیل
السلام اے چشمِ فہرتِ بندگی ام را صلہ
السلام اے کیفِ دروتِ عشق را اجرِ جمیل

آغا حشر کاشمیری



اے سحابِ سخا و جود و کرم
کشت ویراں کے آبیارِ سلام

درد مندوں کے دلفگاروں کے
بے نواؤں کے غمگسار سلام
جانِ عالم پہ بے شمار درود
رحمتِ کل پہ بار بار سلام

سید سلیم گیلانی



جب بھی وہ پاک نام لکھتا ہوں
ان پہ لاکھوں سلام لکھتا ہوں
اور لکھتا نہیں کچھ اس کے سوا
بس درود اور سلام لکھتا ہوں
ترتیل سلام کر رہا ہوں
تکمیل کلام کر رہا ہوں

نسیم سحر



(ہائیکو)

بھیجے جو سلام ان ﷺ پر
قدر ہے جنت کا
اللہ کا بھی دلبر

ساترشیوی



ہم کو مرغوب ازل سے ہے فقط آپ کا نام
سبز گنبد کے مکین آپ پہ لاکھوں ہی سلام
تہنیت النساء بیگم



کہنا رسول پاک ﷺ سے طیبہ کے زائر و
میرا سلام اپنی ہر اک التجا کے بعد
فنا نظامی کانپوری



سلام اُس پر جسے حق نے عطا کی شانِ یکتائی
سلام اُس پر کہ جس کے نور سے ہم نے ضیا پائی
سلام اُس پر جو بن کر رحمۃ للعالمین آیا
علم بردارِ دین بن کر سپہ سالارِ دین آیا
خوشی محمد ناظر



نہیں کہ تجھ کو بشر ہی سلام کرتے ہیں
شجر حجر بھی ترا احترام کرتے ہیں
شاہ حسن عطا



سلام اے شہِ والا ﷺ سلام شاہِ اُمم ﷺ
غلام حاضرِ دربار ہیں ہو چشمِ کرم
سید ذوالفقار حسین نقوی



سلام اُس پر کہ جس کی نعت راحت ہے عبادت ہے
سلام اُس پر سخن جس کا محبت کی علامت ہے
سلام اُس پر غلامی جس کی عزت ہے سعادت ہے
سلام اُس پر کہ جس کی یاد، غفلت ہے قیامت ہے
سلام اُس پر ایں صادق جسے کفار کہتے تھے
جہاں کے ظلم سہتے تھے زباں سے کچھ نہ کہتے تھے
سلام اُس پر کہ جس کی ہر ادا قرآن کے تابع تھی
سلام اُس پر کہ جس کی ہر صدا قرآن کے تابع تھی



بر عاشقِ نبی ﷺ کے لب پر سلام گوئے
رب سے یہی دعا ہے گھر گھر سلام گوئے



اشکوں سے بھی سلامی دیتے ہیں ہم تو اکثر
بے حد درود اُن ﷺ پر جو ہیں ہمارے سرور ﷺ

طاہر سلطانی

بارگاہِ نبوی ﷺ میں پڑھا جانے والا درود و سلام

ترجمہ

رسول بہت شفیق و مہربان اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ ﷺ پر نازل آقا اور نبی اور محبوب اور ٹھنڈک آنکھوں پر، اے اللہ کے نبی ﷺ درود و سلام ہو آپ ﷺ پر، اے زینت اللہ کے ملک کی عرش کے درود و سلام ہو آپ ﷺ پر اے ہو آپ ﷺ پر اے شفاعت کرنے والے ہو آپ ﷺ پر، اے وہ مقدس ہستی کہ بھیجا کے لئے اور تحقیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ جب ظلم کریں اپنی جانوں پر (پھر) آپ ﷺ چاہیں اور معافی چاہیں ان کے لئے پیغمبر توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا عبد اللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم، اے ط چراغِ ہدایت اور منور کرنے والے، اے میرے سردار، اے اللہ کے رسول میں کراپنے گناہوں سے اور (برے) اعمال کے شفیق، اے دور فرمانے والے ظلمت کے مجھے آپ ﷺ کے طفیل اللہ تعالیٰ آگ سے آپ ﷺ سے شفاعت کا خواستگار ہوں اور وسیلہ اور بزرگی اور درجہ بلند اور مقام محمود ہے اور بڑی شفاعت روزِ قیامت میں۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

(وزارت مذہبی امور و حج کی جانب سے جاری ہوا)



”قطعه تاریخ اشاعت“

تاریخ ہجری

زواہر سلام بخضوری نبی

۱۴۲۸ھ

تاریخ عیسوی

مدینے کے گلشن میں جا رہا کہو

نہی مکرم سلام علیک

لیے ساتھ ”گلشن“ کہو پھول تم

رسول معظم سلام علیک

1607+400=2007 عیسوی

تنویر پھول

مآخذ

- ☆ "نعت مقبول خدا" حاجی خلیل الدین حسن حافظہ پہلی بھٹی، اشاعت ۱۳۰۲ھ، ناشر: نظامی پریس ہدایوں، ص ۷۵
- ☆ "حدائق بخشش" (۱۳۰۳ھ) مولانا احمد رضا خاں قادری بریلوی۔ اشاعت ۱۳۲۵ھ۔
- ناشر: مدینہ پبلشنگ کمپنی میٹروپولیٹن روڈ، کراچی۔ ص ۱۳
- ☆ "تحفہ محمدی" الحاج محمد الیاس برنی، اشاعت ۱۳۲۸ھ، ناشر: تاج کمپنی لمیٹڈ، ص ۱۵
- ☆ "تحفہ محمدی" الحاج محمد الیاس برنی، اشاعت ۱۳۲۸ھ، ناشر: تاج کمپنی لمیٹڈ، ص ۲۶
- ☆ "تحفہ محمدی" الحاج محمد الیاس برنی، اشاعت ۱۳۲۸ھ، ناشر: تاج کمپنی لمیٹڈ، ص ۳۰
- ☆ "ارمغان جمیل" بیس نقوی، اشاعت، ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ۔ ناشر: الیت پبلشرز لمیٹڈ، کراچی، ص ۱۴۵
- ☆ "اسرار المشائق"۔ مشتاق۔ اشاعت ۱۴۱۹ھ۔ ناشر، پرنٹنگ پریس، کورور روڈ، لاہور۔ ص ۲۵
- ☆ "آفتاب رسالت" عبدالحمید خاں منظر، اشاعت ۱۹۴۲ء، ناشر: تاج کمپنی لمیٹڈ، ص ۴۲
- ☆ "باغ کلام آئینہ" مولانا آبرو رقی، ناشر: اشاعت ۱۹۴۷ء، علی بھائی شرف سی اینڈ کمپنی لمیٹڈ، بمبئی
- حصہ چہارم، ص ۱۴
- ☆ "منور نقی" منور ہدایوں، اشاعت ۱۹۶۳ء، ناشر: پبلیشنگ کارپوریشن، کراچی، ص ۳۹
- ☆ "نقش سعادت" سید ابو خیر شفی، اشاعت ۱۹۶۶ء، ناشر: خطاب و کتاب گھر، ص ۴۵
- ☆ "تسبیح رعنا" رحمان آبرو، اشاعت ۱۹۶۹ء، ناشر: ندان انڈیا، ص ۱۰۰
- ☆ "جزیرہ نعت" بشیر زہری، اشاعت ۱۹۶۹ء، ناشر: ابرق پریس پاکستان چوک، کراچی، ص ۲۴
- ☆ "تیسیرت" نعیم تقوی، اشاعت ۱۹۷۸ء، ناشر: مجلس انکار اسلامی، کراچی، ص ۷۷
- ☆ "معانی ایضاح" ایضاح، اشاعت ۱۹۸۰ء، ناشر: اربعین مطبوعات نیو کراچی، ص ۳۶-۳۷
- ☆ "جوہر نعت" سعید ہدایوں، اشاعت ۱۹۸۱ء، ناشر: بزم یوسفی، ص ۳۳۔ ناشر: فیضان فیضان کراچی، ص ۲۲۳
- ☆ "ساز حجاز" سیما آبرو، اشاعت ۱۹۸۲ء، ناشر: سیما پبلیشرز، پاکستان ریڈیو
- ☆ "تجلیات" حافظ مظہر الدین، اشاعت ۱۹۸۳ء، ناشر: فیضان، انٹرنیشنل، لاہور، ص ۱۲۶
- ☆ "سنت جمع ذبیر" قمر انجم، اشاعت ۱۹۸۵ء، ناشر: پاکستان نعت کونسل، کراچی، ص ۱۴۶
- ☆ "زوار ابوالشیراز" شہدائوں، اشاعت ۱۹۸۵ء، ناشر: راشد عین، بنگلور، ناشر: پاکستان، ص ۸۰-۸۱
- ☆ "سرف شاد" شہدائوں، اشاعت ۱۹۸۶ء، ناشر: شہدائوں پبلیشرز، لاہور، ص ۱۴
- ☆ "نور القلوب" شہدائوں، اشاعت ۱۹۸۶ء، ناشر: کتاب منار، کراچی، ص ۱۴
- ☆ "نور القلوب" شہدائوں، اشاعت ۱۹۸۶ء، ناشر: کتاب منار، کراچی، ص ۱۴

- ☆ "تیر اعظم" محمد اعظم چشتی، اشاعت ۱۹۸۹ء، ناشر: مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور، ص ۶۷
- ☆ "اساس" سرشار صدیقی، اشاعت ۱۹۹۰ء، ناشر: تحقیق پبلشنگ ہاؤس، لاہور، ص ۵۲
- ☆ "برگ سدرہ" خلیق قریشی، اشاعت ۱۹۹۱ء، ناشر: نعت اکادمی فیصل آباد، ص ۸۷
- ☆ "غمرہ محمد" مولانا احمد علی، اشاعت ۱۹۹۳ء، ناشر: محمد احمد بی ۶۳۲، بلاک ۱۳ گلستان مصطفیٰ، کراچی، ص ۲۱
- ☆ "ذرا رفع" مبارک مونگیری، اشاعت ۱۹۹۳ء، ناشر: مبارک مونگیری میموریل اکیڈمی، ص ۳۳
- ☆ "چراغ حرا" شوکت الہ آبادی، اشاعت ۱۹۹۵ء، ناشر: ایجوکیشنل پریس، کراچی، ص ۸۵
- ☆ "جمال خلیل" علامہ خلیل خان خلیل، اشاعت ۱۹۹۵ء،
- ☆ "چراغ حرا" شوکت الہ آبادی، اشاعت ۱۹۹۵ء، ناشر: ایجوکیشنل پریس، پاکستان چوک کراچی، ص ۸۵
- ☆ "آپ ﷺ" حنیف اسعدی، اشاعت ۱۹۹۶ء، ناشر: اقلیم نعت، ص ۱۲۱
- ☆ "عالم افروز" خالد شفیق، اشاعت ۱۹۹۶ء، ناشر: مجلس اردو، لاہور، ص ۶۳
- ☆ "نور مجسم" سید مختار علی، اشاعت ۱۹۹۶ء، ناشر: نعت اکیڈمی کورنگی، کراچی، ص ۵۶
- ☆ "یہ جو سلسلے ہیں کلام کے" نسیم سحر، اشاعت ۱۹۹۶ء، ناشر: القلم دارالاشاعت، اسلام آباد، ص ۸۱
- ☆ "یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ" کوثر بریلوی، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: حرافاؤنڈیشن پاکستان، ص ۱۵۹
- ☆ "محبوب ﷺ" صوفی جاوید اقبال معصومی، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: انجمن دبستان بولان کوئٹہ، ص ۱۵۹
- ☆ "آنکھ بنی شکلوں" آفتاب کریمی، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: اقلیم نعت، شادمان ٹاؤن ۲ شمالی کراچی، ص ۶۱
- ☆ "انتخاب نعت" حصہ سوم، انور فیروز پوری، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: ڈاکٹر تو حید قمر، لاہور کینٹ، ص ۱۲۷
- ☆ "انتخاب نعت" حصہ سوم، مظہر الدین مظہر، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: ڈاکٹر تو حید قمر، لاہور کینٹ، ص ۱۶۳
- ☆ "انتخاب نعت" حصہ سوم، عبدالکریم شمر، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: ڈاکٹر تو حید قمر، لاہور کینٹ، ص ۳۰۲
- ☆ "انتخاب نعت" حصہ سوم، علامہ سلام، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: ڈاکٹر تو حید قمر، لاہور کینٹ، ص ۳۱۱
- ☆ "انتخاب نعت" حصہ سوم، قیوم احسان، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: ڈاکٹر تو حید قمر، لاہور کینٹ، ص ۳۲۳
- ☆ "انتخاب نعت" حصہ سوم، منتظر، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: ڈاکٹر تو حید قمر، لاہور کینٹ، ص ۳۸۶
- ☆ "انتخاب نعت" حصہ سوم، نسیم بستوی، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: ڈاکٹر تو حید قمر، لاہور کینٹ، ص ۴۰۰
- ☆ "صحیح مدینہ" اختر شیرازی، اشاعت ۱۹۹۸ء، ناشر: مکتبہ ادب لاہور چھاؤنی، ص ۷۲
- ☆ "وہی بس وہی طہ" حفیظ تائب، اشاعت ۱۹۹۸ء، ناشر: القمر انٹر پرائز، اردو بازار، لاہور، ص ۱۱
- ☆ "سلام ان ﷺ پر خدا سے بعد جو یکتاں ہیں اعلیٰ ہیں" مسرور کیفی، اشاعت ۱۹۹۸ء،

ناشر: ادارہ فروغ ادب کراچی، ص ۵

سلام

- ☆ ”مدینے کی گلیاں“ اجمل قادری، اشاعت ۲۰۰۴ء، ناشر: بزم شیدا، ص ۲۱۸
- ☆ ”سبد گل“ پیر شاہ بقا نظامی عظیم آبادی، اشاعت ۲۰۰۴ء، ناشر: مکتبہ شاہ برہان اولیاء، ص ۳۳۵
- ☆ ”جذباتِ حامد“ مولانا محمد عبدالحمید بدایونی، اشاعت ۲۰۰۴ء، ناشر: ایس ایس پرنٹرز، ص ۳۱
- ☆ ”حرفِ ثبات“ مقبول نقش۔ اشاعت ۲۰۰۴ء۔ ناشر، ہم سخن رائٹرز فورم، گلشن اقبال، کراچی۔ ص ۱۲۷
- ☆ ”نور الہدیٰ محمدی“۔ غرار احمد غرار۔ اشاعت ۲۰۰۴ء۔ ناشر، بزم یاران سخن کراچی۔ ص ۲۰۶
- ☆ ”روشنی کے خدو خال“ رفیع الدین راز، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: میڈیا گرافکس، ص ۲۳۹
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ مفتی جمیل احمد تھانوی، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۱۳
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ قاضی اطہر مبارکپوری، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۱۵
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ فخر الدین فخر گویاوی، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۱۵
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ مفتی نسیم احمد فریدی، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۱۶
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ نسیم احمد غازی، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۱۷
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ مولانا امام علی دانش، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۱۸
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ کفیل الرحمن نشا، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۲۰
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ مظہر قاسمی، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۲۰
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ ظفر جٹکپوری، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۲۱
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ سید نفیس الحسنی، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۲۲
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ ولی عظیم آبادی، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۲۳
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ عطاء الرحمن عطا، مقتدی، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۲۴
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ اسماعیل علی خاں تاج، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۲۵
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ علامہ منصور بجنوری، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۲۷
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ مولانا بلالی علی آبادی، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۲۸
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ امت اللہ تسنیم، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۲۹
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ ماہر القادری، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۳۰
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ عروج قادری، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۳۱
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ ناظر حسین گل چاند پوری، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۳۲
- ☆ ”ندائے شامی“ مراد آباد۔ رئیس احمد نعمانی، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: ماہنامہ ندائے شامی، مراد آباد، ص ۵۳۳

- ☆ "بیاض حمد و ثنا" سید احمد سحر، اشاعت ۲۰۰۵ء، ناشر: دانش محل، امین آباد، لکھنؤ، فون، 223384، ص ۸۷
- ☆ "مشارق" اسد ملتان، اشاعت ۲۰۰۵ء۔ ناشر، مہر عطاء الرحمن، ایڈووکیٹ ہائی کورٹ، لاہور۔ ص ۷۲
- ☆ "فیضان مصطفیٰ ﷺ" اقبال احقر الہ آبادی۔ اشاعت ۲۰۰۵ء۔ ص ۸۹
- ☆ "گلستان مدحت" عزیز جبران انصاری، اشاعت ۲۰۰۶ء، ناشر: عادل کتاب گھر، ص ۱۶۶
- ☆ "تعبہ ازکی" صلاح الدین ناصر، اشاعت ۲۰۰۶ء، ناشر: ادارہ تبلیغ الاسلام (انک) ص ۸۲
- ☆ "عود گلستان رسول ﷺ" سلیم اختر فارانی، اشاعت ۲۰۰۶ء، ناشر: فروغ ادب اکادمی، ص ۲۰۲
- ☆ "دو ماہی" سر بکف" کراچی، سیرت ﷺ نمبر۔ مارچ۔ اپریل ۲۰۰۷ء۔ ص ۱۵۹
- ☆ "مختار کونین ﷺ" سکندر لکھنوی، ناشر: خلیل بک ڈپو، لیاقت آباد کراچی، ص ۱۲۷
- ☆ "سلسبیل" اثر زبیری لکھنوی، ناشر: الحجاز پبلشرز، ص ۶۷
- ☆ "سلام رضا"۔ علامہ سید عشقی۔ ناشر، انجمن ترقی نعت (نرسٹ)، کراچی۔ ص ۱۲
- ☆ "سلام رضا"۔ امام احمد رضا خاں بریلوی۔ ناشر، انجمن ترقی نعت (نرسٹ)، کراچی۔ ص ۱۳
- ☆ "دیوان سالک" مفتی احمد یار خان نعیمی سالک۔ ناشر: مکتبہ اسلامیہ لاہور، ص ۱۶
- ناشر: جامعہ خلیلیہ برکاتیہ، الوحید کالونی حالی روڈ، حیدرآباد۔ ص ۱۱۰
- ☆ "نغمہ روح" بہزاد لکھنوی۔ ناشر، پاکستان کوآپریٹو بک سوسائٹی لمیٹڈ۔ ص ۳۹
- ☆ "حرف معطر" شکیل مدنی۔ ناشر، غضنفر ایڈمی پاکستان۔ ص ۱۶۵
- ☆ "ذکر حبیب" خالد مینائی، ناشر پاکستان پرنٹنگ ورکس لاہور، ص ۲۶۳
- ☆ "شمیم عقیدت" کلام رضوی، ناشر مدنی بک ڈپو، کورنگی کراچی، ص ۳
- ☆ "مصطفیٰ ﷺ جان رحمت پہ انھوں سلام" سلیم اختر ندیم، ناشر: تاجدار حرم پبلشنگ مینی کراچی، ص ۳۰
- ☆ "سونعات" منظور حسین رحمانی۔ ناشر، زین انٹرنیشنل، مین اردو بازار، کراچی۔ ص ۵۸
- ☆ "گلدستہ نعت" عاقل اکبر آبادی۔ ناشر، دفتر ہفت روزہ فیضان نزد مئد مسجد H بلاک FB ایریا، کراچی۔ ص ۷۸
- ☆ "کلام انور"۔ انور فرخ آبادی۔ ناشر، سلیم بک ڈپو یعقوب خان روڈ، کراچی۔ ص ۲۹
- ☆ "حمد و ثنا" شاہد الوری، ناشر: مکتبہ الانصار، ایف/۶۶۹ کورنگی۔ کراچی، ص ۱۰۳
- ☆ "عقیدت" عرشہ علوی، ناشر: عرشہ علوی، ص ۱۰۵
- ☆ "آمنہ کا چاند"۔ مولانا صابر براری۔ ناشر، سلیم بک ڈپو یعقوب خان روڈ، کراچی۔ ص ۱۲
- ناشر، ادارہ فروغ ادب کراچی۔ ص ۵

۶۴۶۱۱۱۱۱

- ☆ "قدیل عرش" شریف امرہ ہوی۔ اشاعت ۱۹۸۷ء۔ ناشر: گلہار نعت کونسل لیاقت چوک گلہار، کراچی۔ ص ۱۳۶
- ☆ "ساقی کوثر علیہ السلام" خان اختر ندیم نقشبندی۔ اشاعت ۲۰۰۳ء، ناشر: مکتبہ خمد نعت، کراچی۔ ص ۲۰۰
- ☆ "صاحب الجہال" انجم رحمانی۔ اشاعت ۱۹۸۶ء، ناشر: منظور عظمت پبلشرز، لاہور۔ ص ۱۳۷
- ☆ "خوابوں میں سنہری جالی" صبح رحمانی۔ اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر: ممتاز پبلشر، اردو بازار کراچی۔ ص ۸۲
- ☆ "خوشبوئے مدینہ" پروفیسر حبیب الرحمن رومی۔ اشاعت ۲۰۰۲ء، ناشر: حرا مطبوعات۔ ص ۱۱۱
- ☆ "نزول" شفیق الدین شارق۔ اشاعت ۱۹۹۹ء، ناشر: اقلیم نعت۔ ص ۶۴
- ☆ "روشنی کے سلسلے" ریحانہ تبسم فاضلی۔ اشاعت ۱۹۹۳ء، ناشر: فاضلی پبلیکیشنز۔ ص ۵۴
- ☆ "سوئے حرم" شبیر احمد۔ اشاعت ۲۰۰۶ء، ناشر: زمزم پبلشرز کراچی، ص ۱۲۷
- ☆ ماہنامہ "سوئے حجاز" لاہور، اکتوبر ۲۰۰۷ء۔ ص ۴۷

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

تذکرہ

"خوشبوؤں کا سفر"

صاحب کتاب نعت گو یانِ اردو (پنجاب)

تصنیف و تالیف طاہر سلطانی

حفیظ تائب مرحوم، مظفر وارثی، حافظہ لدھیانوی مرحوم، علیم ناصری مرحوم، ڈاکٹر عاصی کرمالی،

ڈاکٹر ریاض مجید، خالد شفیق، پروفیسر جعفر بلوچ، راجا رشید محمود، ریاض حسین چودھری، مسرور بدایونی،

اقبال نجمی، گوہر ملسیانی، تابش صدیقی، نسیم سحر، صابر کاسنگوی، عثمان ناعم، فیروز شاہ،

یوسف طاہر قریشی اور صلاح الدین ناصر جیسے ممتاز و معروف شعراء کا تذکرہ و کلام شامل ہے

☆ صفحات ۴۷۲ قیمت ۲۰۰ روپے

ملنے کا پتہ

مکتبہ سید الشہد اسیدنا امیر حمزہ

نوشین سینٹر، دوسری منزل، 2/19، اردو بازار، کراچی

Ph: 2210869.....Mob: 0302-2200485.....0300-2831089

۲۶۴

☆☆☆☆☆☆

"سلام"



ارشادِ باری ہے :

”اور جب قرآن پڑھا جائے، توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا“

..... * * *

ترمذی میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
”جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملے گی جو دوسرے اعمال کی دس نیکیوں کے برابر ہوگی“

اللہ عزوجل بہ سب و عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے۔

☆☆☆☆☆

قارئین ”ارمغانِ حمد“ سے درخواست ہے کہ
محمد دین مغل مرحوم..... خورشید بیگم مرحومہ..... شاکر مرحوم..... بلقیس بیگم مرحومہ
کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں۔

بزمِ جہانِ حمد کا ماہانہ طرحی حمد یہ مشاعرہ

دنیا میں ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ بالخصوص عالم اسلام کے مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نفسی نفسی کا دور ہے ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے جسے دیکھو اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر یہود و نصاریٰ کی نقل کرنے میں لگ گئے ہیں۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم نہ گھر کے رہے اور نہ گھاٹ کے۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ.....

”یہود و نصاریٰ تمہارے دوسرے ہرگز نہیں ہو سکتے“

اللہ رب العزت کا فرمانِ عالی شان ہے کہ

”دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے“

بزمِ جہانِ حمد پاکستان..... مالکِ ارض و سماوات کے خاص پیغام کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ بزمِ ہذا ماہنامہ ”ارمغانِ حمد“ کا اجراء کرتی ہے یہ رسالہ اُردو میں حمد کے موضوع پر اولین رسالہ ہے۔ اسی ادارے کے تحت ”جہانِ حمد“ (کتابی سلسلہ) بھی شائع کیا جاتا ہے دنیا میں جہاں جہاں جتنے بھی ادبی و مذہبی رسالے شائع ہو رہے ہیں۔

ان رسالوں میں مذکورہ رسالے کو بھی اولیت کا اعزاز حاصل ہے (موضوع کے لحاظ سے) بزمِ ہذا نے ماہانہ طرحی حمد یہ مشاعرے کی بنیاد ڈالی اب یہ روایت مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔

گزشتہ کی طرح اگست کا شاعرہ گہرا عظمیٰ کی رہائش گاہ ڈیفنس سوسائٹی کراچی میں

حضرت راغب مراد آبادی کی صدارت میں منعقد ہوا۔

مہمانِ خصوصی حضرت خمار فاروقی تھے۔ مہمانانِ ذی وقار میں امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ممتاز شاعر تنویر پھول اور کینیڈا کے شاعر عبد الحفیظ قادری حفیظ شامل تھے۔ نظامت کے فرائض شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی نے انجام دیے۔

تلاوت آیات ربانی اور نعت رسول مقبول کی سعادت آل کراچی کا لجز مقابلہ نعت خوانی میں اول آنے والے حافظ قاری محمد نعمان طاہر نے حاصل کی۔ ہم حافظ نعمان طاہر کو دلی مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ ہم شاعر حمد و نعت کو ان کی صاحبزادی طلعت فاطمہ کی شادی خانہ آبادی پر مبارک باد پیش کرتے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت سرور انبیاء آنحضرت ﷺ کے طفیل طلعت فاطمہ اور محمد ریحان خان کو شاد و آباد رکھے۔ ماہانہ طرحی حمد یہ مشاعرے کا آغاز شاعر حمد و نعت نے اپنی طرحی حمد سے کیا انہوں نے اپنے خوبصورت کلام و ترنم سے سامعین سے داد و تحسین حاصل کی۔ یونس ہویدا نے بھی اپنے مخصوص ترنم میں اپنا کلام پیش کیا بعدہ اقبال عالم، عبد الحمید فہمی، آفتاب مضطر، علیم التسانا (پس پردہ) گہرا عظمیٰ، مہر وجدانی، تنویر پھول، عبد الحفیظ قادری حفیظ کے بعد صدر ہشاعرہ حضرت راغب مراد آبادی نے طویل و مرصع حمد پیش کی۔ شاعر حمد و نعت نے عالم اسلام بالخصوص عراق، فلسطین، کشمیر، افغانستان کی آزادی کے لیے دعا کی انہوں نے بیماروں کے لیے بھی خصوصی دعا کی بالخصوص اسی سلطانی کی والدہ، تنویر پھول کے دامادو بھائی، شاعر حمد و نعت کی بھتیجی شاہین، گہرا عظمیٰ، سہیل غازی پوری اور معروف شاعر کے طالب، کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ بعدہ گہرا عظمیٰ کی جانب سے پر تکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔

دنیا نعت کا خورشید غروب ہو گیا

طاہر سلطانی

عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول اکرم الحاج خورشید احمد انتقال کر گئے۔

گو کہ وہ آج ہم میں موجود نہیں مگر اُن کی یادگار نعتیں، اُن کا حُسنِ اخلاق انہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ عشق رسول کی فرادانی اور بے پناہ محبت اُن کی پہچان رہی یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی ایوارڈ دیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ اُن کی آواز کی خوبصورتی کے بارے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ۔

اُس غیرتِ ناہید کی ہر تان ہے دپک

شعلہ سا۔ لپک جائے ہے آواز تو دیکھو

اُن کی نماز جنازہ رحمانیہ جامع مسجد (طارق روڈ) میں ادا کی گئی، امامت مفتی رفیق الحسن الحسنی نے کی، الحمد للہ راقم نماز جنازہ میں موجود تھا۔ نماز جنازہ میں انسانوں کا سمندر دیکھنے میں آیا۔ حقیقتاً محسوس ہو رہا تھا کہ کسی عاشق رسول کا جنازہ ہے۔ اُن کی تدفین حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں ہوئی۔

”یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے“

مفتی رفیق الحسنی نے بتایا کہ خورشید احمد کی آخری آرام گاہ کے حصول میں ممتاز اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اہم کردار ادا کیا، ہم اُن کے اس ایثار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ عزوجل عامر لیاقت کو اجر عظیم عطا فرمائے (آمین)

مرحوم کے حوالے سے کچھ یادیں احقر کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ انشاء اللہ زندگی رہی

تو آئندہ قلمبند کروں گا۔ ادارہ ”ارمغانِ حمد“، ”جہانِ حمد“ کی مشاورتی کونسل اور
 احقر طاہر سلطانی..... مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔
 ملک کے ممتاز شعراء کرام جناب مختار جمیری، جناب رشید وارثی نے
 ماہنامہ ”ارمغانِ حمد“ ”جہانِ حمد“ (کتابی سلسلہ) میں اشاعت کے لیے قطعہ تاریخ ارسال
 کیے ہیں، ادارہ معزز شعراء کرام کا ممنون ہے۔

قطعہ تاریخ..... مختار جمیری

”مرحلتِ نعتِ خواں“

۱۴۲۸ھ

”خورشید احمد بہشت منزل“

۲۰۰۷ء

خود بھی طرح دار تھا خورشید احمد بے گماں
 نعت خوانی میں بھی اُس کو اے طرح دار لکھ
 فکر ہے خورشید کی تاریخِ رحلت کی اگر
 سال نو مختار اُس کا ”واقفِ مختار“۔ لکھ
 ۱۴۲۸ھ

☆☆☆☆☆

جناب طاہر سلطانی صاحب
 ایڈیٹر ”ارمغانِ حمد“ کراچی
 السلام علیکم

وطن عزیز کے معروف نعت خواں خورشید احمد کی وفات پر دو قطعہ تاریخ موزوں
 ہوئے ہیں جو آپ کے بزمِ بیدے میں اشاعت کے لیے ارسال خدمت ہیں۔

قطعات تاریخ وفات

خورشید احمد (نعت خواں)

رشید وارثی

خورشید نعت خوانی بھی خلد آشیاں ہے آج اس کے لیوں پہ صلن علی ہی سجا رہا
عشق حبیب رب نے جو بخشا تھا سوز نعت گو صیف میں رسول کی وہ حق نما رہا

۱۳۲۸ھ

”خورشید نعت خوانی“ بھی سوئے جاناں چلے اب ان کو لاکھ اہل محبت کریں تلاش
خورشید احمد آپ پہ رحمت ہو بے نقاب مدحت میں مصطفیٰ کی رہے یونہی بود و باش

۲۰۰۷ عیسوی

۱۳۲۸ ہجری

☆☆☆☆☆

”پاکستان کے نعت گو شعراء“ (حصہ دوم) شائع ہو گئی ہے

تذکرہ نگار..... سید محمد قاسم ☆☆☆ ادارت..... شبیر احمد انصاری

صفحات..... ۳۱۶ ☆☆☆ قیمت..... ۲۰۰ روپے

حرفاؤنڈیشن پاکستان، پی او بکس ۷۲۷۲ کراچی

کتاب ملنے کے پتے: مکتبہ سید الشہداء - نوشین سینٹر - دوسری منزل - کمرہ نمبر ۱۹ - اردو بازار، کراچی

فضلی سنز - اردو بازار، کراچی

کل کراچی کا لجز مقابلہ نعت میں اول آنے والے خوش الحان نعت خواں

حافظ محمد نعمان طاہر

کی آڈیو، ویڈیو سی ڈی عنقریب ریلیز ہوگی (انشاء اللہ)

خبرنامہ ”ارمغانِ حمد“

پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر نے رمضان المبارک میں نعتیہ مشاعرہ کا انعقاد کیا۔ ملک کے مشہور و معروف شعرا کرام نے بحضور سرور کوئٹہ کے حضور اپنا نعتیہ کلام پیش کیا جن شعرا و شاعرات نے یہ سعادت حاصل کی ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

پروفیسر منظر ایوبی، ظفر اکبر آبادی، اعجاز رحمانی، ماجد خلیل، آصف زیدی، ریحانہ روحی طاہر سلطانی، ذکیہ غزل، نسیم نازش، پروین حیدر، سلیم ناصر۔ فرائض نظامت سرفراز ابد نے انجام دیے۔ مشاعرہ کی پروڈیوسرناہید حسن زیدی جبکہ ایکویٹیو ڈائریکٹر ظفر اکبر تھے۔

حق چینل کا مشاعرہ ۶ رمضان المبارک کی ساعتوں میں منعقد ہوا مشاعرے کی روح رواں رضوان صدیقی تھے۔ رضوان صدیقی الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا پر فروغ حمد و نعت کے لیے نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔

ادارہ ”ارمغانِ حمد“ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ مشاعرے میں مندرجہ ذیل شعراء نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ حضرت راغب مراد آبادی، نظر امر و ہوی، ماجد خلیل، قمر وارثی، حسن اکبر کمال صابر وسیم، نکبت بریلوی، اجمل سراج اور طاہر سلطانی۔ فرائض نظامت شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی نے انجام دیے۔

میٹروون چینل پر ماہ مبارک میں نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوا۔ پروفیسر منظر ایوبی، انور شعور سجاد سخن، فہیم رودلوی، سراج الدین سراج، اختر سعیدی، طاہر سلطانی، ڈاکٹر ثار احمد ثار رضی عظیم آبادی، عباس حیدر عباس، سعد الدین سعد، ثناء علی، ریحانہ احسان نے بحضور پر نور آنحضرت ﷺ نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مشاعرے کے ڈائریکٹر قیصر وجدی تھے۔

نظامت کے فرائض سہیل امثال صدیقی نے انجام دیے۔

حق چینل نے نعتیہ مشاعرے کے ساتھ ساتھ حمدیہ مشاعرہ کا انعقاد بھی کیا۔ اس کا کریڈٹ رضوان صدیقی کو جاتا ہے کہ چند برسوں سے شاعر حمد و نعت کی تحریک پر حمدیہ مشاعروں کا انعقاد پابندی سے کر رہے ہیں۔ اللہ عزوجل ان کے ایمان و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حمدیہ مشاعرے میں شریک شعرا کرام کے اسمائے گرامی۔ ماجد خلیل، سجاد سخن، گہرا عظمیٰ احسان کا کوروی، ہارون شاہد، طاہر سلطانی اور قمر وارثی۔ نظامت کے فرائض قمر وارثی نے انجام دیے۔

آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام معروف نعت خواں و نعت گو الحاج سعید ہاشمی اور صبیح الدین رحمانی کے اعزاز میں تقریب پذیرائی منعقد ہوئی۔ صدارت ایس ایم منیر کے حصے میں آئی۔ مہمان خصوصی ایس ایچ ہاشمی مرحوم کے فرزند جناب مسعود ہاشمی تھے۔ کونسل کی جانب سے مہمان نعت خواں و نعت گو صاحبان کو شیلڈ پیش کی گئیں۔ جناب مسعود ہاشمی نے دونوں مہمان نعت خوانوں کو ۵-۵ ہزار روپے بطور نذرانہ پیش کیے۔

نظامت کے فرائض بحسن و خوبی انجام دے رہے تھے سید اعزاز الدین شاہ مقررین میں اظہر عباس ہاشمی، رضوان صدیقی اور چلڈرن اکیڈمی کے صدر شامل تھے۔ سامعین کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ محمود احمد خان، سیف الرحمن گرامی، شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی نعت اسکالر زہرا احمد، عارف منصور اور ذکریا شیخ شامل تھے۔

”سلام“

شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی نے ۲۰۰ سے زائد شعرا و شاعرات کا
صلوٰۃ و سلام بحضور خیر الامام ﷺ مرتب کیا ہے

ادارہ ”ارمغانِ حمد“ و ”جہانِ حمد“ کو موصول کتب و رسائل

- ”حریمِ حمد“ (مجموعہ حمد)۔ کعھی بہل پوری۔ بشکریہ: سید عارف مجبور رضوی، جرات
 ”شرح اسماء النبی ﷺ“۔ رشید وارثی۔ رمضان المبارک ۱۴۲۸ھ۔ بشکریہ: سید قیسہ رضوی، لراچی
 ”عوبشن“ (مجموعہ نعت)۔ خیال آفاقی۔ بشکریہ: سید قیصر رضوی، لراچی
 ”ذکر حبیب ﷺ“ (مجموعہ حمد و نعت)۔ مولانا امیر مینائی۔ بشکریہ: اظہر عباس بٹنی، لراچی
 ”رحمت مآب“ (مجموعہ حمد و نعت)۔ ظفر اکبر آبادی۔ بشکریہ: ظفر اکبر آبادی، لراچی
 ”سازِ مجاز“ (مجموعہ حمد و نعت)۔ غلامہ سیما اکبر آبادی۔ شکر یہ: شبیر احمد انصاری، لراچی
 ”سوئے مدینہ“ (نعتیہ انتخاب)۔ شبیر احمد۔ بشکریہ: مشتاق حسین کاشمیری قادری، لراچی
 ”عود گلستان رسول ﷺ“ (مجموعہ حمد و نعت)۔ سلیم اختر فارانی۔ بشکریہ: محمد اقبال نجمی، لراچی
 ”شبستانِ حرا“ (نعتیہ انتخاب)۔ شبیر احمد انصاری۔ بشکریہ: شبیر احمد انصاری، لراچی
 ”نور الہدی محمد ﷺ“ (نعتیہ انتخاب)۔ ڈاکٹر ثار احمد ثار۔ بشکریہ: اختر سعیدی، لراچی
 ”کرم و نجات کا سلسلہ“ (مجموعہ حمد و نعت)۔ عزیز احسن۔ بشکریہ: صبیح رحمانی، لراچی
 ”سہ کار کے قدموں میں“ (نعتیہ مجموعہ)۔ صبیح رحمانی۔ بشکریہ: ” ” ” ” ” ” لراچی
 ”ذوقِ لالہ الا اللہ محمد الرسول اللہ“ (نعتیہ دیوان)۔ پروفیسر ڈاکٹر خورشید خان اور امجدی

بشکریہ: محمد سلیمان طاہر، لراچی

- ”پاکستان کے نعت گو شعراء“۔ سید محمد قاسم۔ بشکریہ: شبیر احمد انصاری
 ”تفسیر و بیانات“ سیرت نبویؐ۔ علامہ عبدالعزیز عرفی۔ بشکریہ: ڈاکٹر عزیز
 ”معارف اویانہ“ لاہور۔ (حضرت بہاء الدین ڈیرا یاتالی رحمۃ اللہ علیہ)
 ”مدیر اعلیٰ“۔ علامہ طاہر رضا بخاری۔ ڈاکٹر کینڈ مکملہ مذہبی امور و اوقاف
 جون ۲۰۰۷۔ بشکریہ: راجا رشید محمود، مدیر ماہنامہ ”نعت“ لاہور
 ”سوئے مجاز“ لاہور، اکتوبر ۲۰۰۷ء۔ بشکریہ: ملک محبوب الرسول قادری

ماہنامہ ”نعت“ لاہور، اکتوبر ۲۰۰۷ء، متاع نعت

”شاعر نعت“ کا ۲۳واں (مجموعہ حمد و نعت)..... بشکریہ: اظہر محمود

”میلا دنوری“..... مسرت جہاں نوری، بیگم شفیق بریلوی۔ بشکریہ: عارف شفیق

”شہر نعت“ فیصل آباد، ستمبر ۲۰۰۷ء..... آصف بشیر چشتی۔ بشکریہ: پروفیسر شبیر احمد قادری

”کاروان نعت“ لاہور، اکتوبر ۲۰۰۷ء..... مدیر اعلیٰ، پروفیسر اکرم رضا۔ بشکریہ: محمد ابرار حنیف مغل

”الخطیب“ کتابی سلسلہ، اگست ۲۰۰۷ء..... علامہ کوکب نورانی۔

بشکریہ: مولانا اذکار بنی اکادمی العالمی کراچی

”قانون“ کتابی سلسلہ، جولائی/اگست ۲۰۰۷ء۔ بشکریہ: مولانا آصف انصاری

”کاروان قمر“ کراچی..... اگست/ستمبر ۲۰۰۷ء۔ بشکریہ: مولانا صحبت خاں کوہاٹی

”حمایت اسلام“ لاہور..... اگست/ستمبر ۲۰۰۷ء

”اہل سنت کی“ اوکاڑہ ستمبر ۲۰۰۷ء

ماہنامہ ”روحانی ڈائجسٹ“ کراچی..... خواجہ شمس الدین عظیمی، دقار یوسف عظیمی۔ اکتوبر ۲۰۰۷ء، کراچی

”فراست“ سرگودھا سہیل اختر، اگست ۲۰۰۷ء۔ بشکریہ: سہیل اختر

معروف و ادیب شاعر، ڈاکٹر شمس جیلانی کی روح پرور تحریر

”حراسے روشنی“

(سیرت النبی ﷺ)

شائع ہو گئی ہے

قیمت سیرت مصطفیٰ ﷺ پر عمل کرنے کا وعدہ

ناشر: جہان حمد پبلی کیشنز، کراچی۔ ۲۸۳۱۰۸۹۔ ۰۳۰۰

نوٹیشن سینٹر، دوسری منزل۔ کمرہ نمبر ۱۹، اردو بازار۔ کراچی

سرورِ انبیاء حضورِ پُر نور آنحضرت ﷺ

کے ارشاداتِ مبارکہ

حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم میں وعظ فرمایا تو فرمایا :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ

اے لوگو! تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فلک ہو رہا ہے یہ مہینہ برکت والا ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ یہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا جو اس ماہ میں نفل بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اُس نے دوسرے مہینے میں ستر فرض ادا کئے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے یہ غربا کی غم خواری کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جو اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش اس کی گردن کی آزادی آگ سے ہوگی اور اسے روزہ دار کا سا ثواب ملے گا۔



Syed Iftikhar Ahmed

Advocate & Tax Advisor

S.IFTIKHAR & CO.

419, Al Madina City Mall, Opp. State Life Building #11,

Abdullah Haroon Road, Saddar Karachi- Pakistan.

Tell : 5656017 -- 5655417

جہان حمد پبلی کیشنز کی مطبوعات

ممتاز و معروف شعراء و شاعرات کے مجموعہ ہائے حمد و نعت

۱۹۹۸ء	سعید دہلوی	(مجموعہ نعت)	جان ایماں
۲۰۰۰ء	لطیف اثر	(مجموعہ حمد)	طلوع حمد
۲۰۰۰ء	عبدالجبار اثر	(مجموعہ نعت)	ثنائے آقا ﷺ
۲۰۰۰ء	شاعر لکھنوی	(مجموعہ نعت)	نعت و نور
۲۰۰۰ء	ڈاکٹر خورشید خاور امر و ہوی	(مجموعہ حمد و نعت)	توشہ سخن
۲۰۰۱ء	عابد بریلوی	(مجموعہ حمد و نعت)	کھلتا ہے دل کا گلشن
۲۰۰۱ء	زماں سہرابی	(مجموعہ حمد و نعت)	ذکر رسول ﷺ
۲۰۰۱ء	گہرا عظمیٰ	(مجموعہ نعت)	حضور ﷺ میرے
۲۰۰۲ء	تنویر پھول	(مجموعہ حمد)	زبور سخن
۲۰۰۲ء	علیم النساء	(مجموعہ حمد)	تری بی حمد و ثناء
۲۰۰۲ء	شفقت رضوی	(نثری کتاب - چند گوشے)	اردو میں حمد گوئی
۲۰۰۲ء	شفقت رضوی	(نثری کتاب - چند گوشے)	اردو میں نعت گوئی
۲۰۰۲ء	پرویز اختر	(مجموعہ نعت)	صاحب معراج
۲۰۰۲ء	فاروق نازاں	(مجموعہ نعت)	سب دہوں کی معراج
۲۰۰۲ء	قیصر نجفی	(مجموعہ نعت)	رب آشنا
۲۰۰۲ء	کنیز فاطمہ	(مجموعہ نعت)	فقیدت
۲۰۰۳ء	ساجد امر و ہوی	(مجموعہ نعت)	عرفان مدینہ
۲۰۰۳ء	صبا اکبر آبادی	(مجموعہ نعت)	وست و دعا
۲۰۰۳ء	انصار الحق قریشی گہرا عظمیٰ	(مجموعہ حمد)	العظمت لہ

☆☆☆☆☆




قارئین ”ارمغانِ حمد“ و ”جہانِ حمد“ کو

ماہِ رمضان مبارک ہو

”رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے، ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم حق گزار ہو“

(سورۃ البقرہ۔ ۱۵۸، ترجمہ کنز الایمان)



ادارہ کی جانب سے عید الفطر کی پیشگی مبارک

عید کی خوشیوں میں اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو ضرور شامل کریں

يَا اللَّهُ جَلَّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

دین و دنیا کی کامیابی کا ضامن

تحفظ مقامِ مصطفیٰ ﷺ

نفاذ نظامِ مصطفیٰ ﷺ

علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن

پر چلتے ہوئے تحریک نظامِ مصطفیٰ ﷺ

کی اجتماعی جدوجہد میں شامل ہوں

جمعیت علماء پاکستان (کراچی شہ)

UHU Stic

The rub-on adhesive in a stick



- UHU's lipstick-style applicator makes it the neatest way to glue!
- Convenient! Just take off the cap and rub it on. There's no quicker, easier way to paste clippings in scrapbooks, work on arts and crafts projects, keep photo albums, seal envelopes, stick down notes and do hundreds of other jobs.
- Works on paper, cardboard, photos, fabric, polystyrene and more.
- Dries wrinkle-free.
- Was hable, non-toxic formula makes it safe for children.
- Perfect for school, home or office.



UHU Stic

... the cleaner better way to glue

۲۷۹

★★★★★


”سلام“

روح افزا

مشروب مشرق

جب چھوٹی چھوٹی باتیں کر دیں موڈ خراب
اور آنے لگے غصہ ایسے میں روح افزا
مزاج میں لاتے ٹھنڈک اور دلچاس۔

پیوٹھنڈا ٹھنڈا،
بولو میٹھا میٹھا!



ہمدرد لیباریٹریز (وقف) پاکستان

ISO 9001:2000 CERTIFIED

www.hamdard.com.pk

۲۸۰

۲۸۰

★★★★★

”سلام“

اردو حمد و نعت کے حوالے سے یادگار اور منفرد کتابیں شائع کرنے والا ادارہ

جہانِ حمدِ پہلی کیشنز کی مطبوعات

<p>نعت میری زندگی</p> <p>مجموعہ نعت شاعر: طاہر سلطانی صفحات: ۱۳۴ قیمت: ۱۵۰ روپے</p>	<p>حمدِ میری بندگی</p> <p>مجموعہ حمد شاعر: طاہر سلطانی صفحات: ۱۳۶ قیمت: ۱۰۰ روپے</p>	<p>نکھت و نور</p> <p>مجموعہ نعت شاعر: شاعر لکھنوی صفحات: ۱۶۸ قیمت: ۱۵۰ روپے</p>	<p>دستِ دعا</p> <p>مجموعہ نعت شاعر: صبا اکبر آبادی صفحات: ۲۲۴ قیمت: ۲۰۰ روپے</p>
<p>علامہ اقبال</p> <p>فن و شخصیت تالیف: طاہر سلطانی صفحات: قیمت: ۲۰۰ روپے</p>	<p>امام احمد رضا</p> <p>علمی تالیف طاہر سلطانی صفحات: ۵۴۴ قیمت: ۳۰۰ روپے</p>	<p>سرور کائنات ﷺ</p> <p>منظوم سیرت شاعر: گہرا عظمی صفحات: ۵۱۰ قیمت: ۳۰۰ روپے</p>	<p>اردو حمد کا ارتقاء</p> <p>اردو حمد کا اجمالی جائزہ تصنیف و تالیف: طاہر سلطانی صفحات: ۶۳۰ قیمت: ۳۰۰ روپے</p>
<p>ذکر آمد مصطفیٰ ﷺ</p> <p>نعتیہ انتخاب مرتب: طاہر سلطانی صفحات: ۱۶۸ قیمت: ۵۰ روپے</p>	<p>محمد ﷺ</p> <p>(نعتیہ انتخاب) ترتیب و پیشکش: طاہر سلطانی صفحات: ۱۳۶ قیمت: ۶۵ روپے</p>	<p>گلشنِ حمد</p> <p>غیر مسلم حمد گو شعراء کا تذکرہ (اولین) تصنیف و تالیف: طاہر سلطانی صفحات: ۱۶۰ قیمت: ۲۰۰ روپے</p>	<p>انتخابِ مناجات</p> <p>ترتیب و پیشکش: طاہر سلطانی صفحات: ۵۰۰ قیمت: ۳۰۰ روپے</p>

کتابیں منگوانے کیلئے منی آرڈر ضروری ہے کتاب وی پی نہیں ہوں۔ ڈاک خرچ اس میں شامل نہیں ہے

نوشین سینٹر، دوسری منزل، کمرہ نمبر 19، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-2210869

ای میل: tahirsultani@gmail.com

Cell: 0300-2831089, 0302-2200485